

بے ادب گستاخ فرنگی کو خادمِ حسن
 یوں کہا کرتے ہیں مجھی داشتائیں الٰہی بیت

رکمز افسوس 77

سواریح کربلا



خلیفۃ الاعلیٰ حضرت صدر الافق امام فتحی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی

جمعیت اشاعت اہلسنت پاکستان

نور مسجد کاغذی بازار کریچی ۴۳۰۰۰

Ph: 021-2438799 Website: www.ishaateislam.net

فهرست عنوانات

۱	پیش لفظ
۲	خطبہ
۳	رسول کریم علیہ اصلہ و اتسامیم کی محبت
۴	سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
۵	حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اسلام
۶	سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ
۷	سیدنا مہمان ذا اورین رضی اللہ عنہ
۸	سیدنا علی مراثی رضی اللہ عنہ
۹	اہل بیت لرام
۱۰	سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ
۱۱	کربلا کا خونی منظر
۱۲	شہادت کی شہرت
۱۳	واقعات شہادت
۱۴	امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات اور یزید کی سلطنت
۱۵	امام عالی مقام کی عدیہ نہ طبیر روانگی
۱۶	امام کی جناب میں کوفیوں کی درخواستیں
۱۷	حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کی کوفہ روانگی
۱۸	حضرت امام عالی مقام کی کوفہ روانگی
۱۹	دو سی محروم کے واقعات
۲۰	حضرت امام عالی مقام کی شہادت
۲۱	واقعات بعد از شہادت
۲۲	ابن زیاد کی ہلاکت

سوانحِ کربلا

نام اتناب

حضرت علام مولانا نعیم الدین مراد آباد رحمۃ اللہ علیہ

ذوالحجہ 1429ھ - دسمبر 2008ء

2800

جمعیت اشاعت اہل سنت (پاکستان)

نور مسجد کاغذی بازار میٹھا در، کراچی، فون: 2439799

website: www.ishaateislam.net.pk

۲۰۷

اطلاع

تمام فتاویں اور ان کا ملکیت ایسا ہے کہ ادارے کے ماتحت سن 2009ء تک نہیں ہے بلکہ 15 ماہ اگست 2009ء کی تاریخ میں فارم شائع ہو چکا ہے، لہذا فتاویں اور ان کا ملکیت ایسا ہے کہ 15 اگسٹ 2009ء کے لئے ممبر شپ شامل ایسا ہے جس اب تک روانہ کر دیا اور جن حضرات، فارم نہیں مالک ایسا یا صاف نہیں کیا تھا کہ ان تمام اور مکمل پتی لکھ کر روانہ کر سکتے ہیں۔ وہ حضرات ہوں جو اس ممبر شپ کے فیس روانہ نہیں کی ان کو جو روایتی 2009ء سے کتاب اور مال نہیں لی جائے گی۔

پیش لفظ

محرم کے مہینے کا شمار ان چار مہینوں میں ہوتا ہے جو حضرت وعظت والے ہیں جن کا احترام زمانہ جاہلیت میں بھی ایسا جاتا تھا اور بعد اسلام اس کی عزت و عظمت میں مزید اضافہ ہوا، پورا ماہ محروم الحرام بالعلوم اور اس کی تاریخ بالخصوص انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اس تاریخ میں کئی اہم امور و واقعات رونما ہوئے، مثلاً فرمودن اور اس کے لشکر کا غرق ہونا، سیدنا آدم علیہ نبیتنا و علیہ الصلوٰۃ والسلام کا پیدا ہونا تو پہ کا قبول ہونا، حضرت ابراء بن عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ نبیانا و علیہم الصلوٰۃ والسلام کا پیدا ہونا، غیرہ، غیرہ، اسی طرح اس تاریخ کو اسی روئے زمین پر کربلا کے میدان میں نگاہ آسمان نے وہ منتظر بھی دیتا ہے، اس کی یاد سے ہی لوگوں کے دل و مل جاتے ہیں اور وہ صبر و رضا کے اس پیغمبر عظیم امام عالی مقام نواز رسول رحیم علیہ افضل الصلوٰۃ والصلوٰۃ کو سلام عقیدت پیش کئے بغیر نہیں رہ سکتے، مگر مسلمانوں کے دیگر مقائد تو حیدر رسلت پر جملوں کی طرح فواسد رسول ﷺ اور اہل بیت عظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اہمیت کی سیرت و کردار پر بھی حملہ کرنے کی نیا اس کوشش کی گئی اور لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ عنہ نعمود بالله علیٰ پر تھے۔ اسی مقصد کے لئے کئی تائیں بھی چھاپی کیئیں نیزاں کے ساتھ ساتھ واقع کربلا میں بھی رو و بدل سے کام لیا گیا اور بعض موڑھیں نے اس واقعہ کو غلط انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی اور حق کو واضح اور بین کر کے عوام اہلسنت کے سامنے پیش کیا اور گراہوں کی گمراہی کی نقاب کشاں کی گئی اور حق کو واضح اور بین کر کے عوام اہلسنت کے سامنے پیش کیا گیا، اس کتاب میں اس کے مصنف خلیفہ اعلیٰ حضرت حضور صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ نے جہاں خلفاء راشدین کے فضائل و مناقب قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمائیں وہیں پرشان اہل بیت و خصوصاً شان حسین کریمین و شہداء کربلا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو نہایت ہی سهل اور جامع انداز میں تحریر فرمایا نیز واقعہ کربلا کو نہایت احتیاط و آسان اور مستند انداز میں پر تتم فرمایا جو کہ واعظین واقعہ کربلا اور عوام انسان کے لئے انتہائی موزوں ہے۔

الحمد لله جمیعت اشاعت اہلسنت اسے اپنے منت سلسلہ اشاعت کے 176 ویں نمبر پر شائع لرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مصنف علیہ الرحمہ کی اس کاؤش کو کامل فرمائے اور عوام و خواص کے لئے اس کتاب کو نافع و ناصح اور جمیعت اشاعت اہلسنت کے ارادیں و ہمہ نہیں کے لئے شافع بنائے۔

آمین بجاه سید المرسلین ﷺ

فضل سبحان اختر القادری

درس جامعۃ النور، نور مسجد، کانڈی

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ذى العزة والعظمة والكبريات والفضل ۵
والكرم والخطاء والنعمة واللاء نحمدہ شاکرین
على النعماء وانشکرہ حامدین بالثناء وان من شئی
الا يسبح بحمدہ فى ملکوت الارض والسماء
وازکی الصلة واطب السلام على سید الطاهرين
امام المرسلین خاتم الانبیاء المتوج بتیجان
الاصطفاء والاجتباء المتردی برده الشرافۃ
والارتضاء صاحب اللواء يوم الجزاء وعلى الله
البررة الاتقیاء واصحبه الرحماء على الضعفاء
والخلفاء والشهداء الذين قتلوا في سبیله باسند
الظلم والجفاء وبدلو انفسهم لله باتم الاخلاص
والرضاء وخصوصاً على امام اہل الابتلاء في
الکرب والبلاء سید الشهداء ابن البطل الزهراء
ومن كان معه في الكربلاء او لئک حزب الله اخلصوا
للہ حاربو في الله وتقوا بالله وتوکلوا على الله
اعتصموا بحبل الله تمسکوا بدین الله نالوا من الله
رحمه وكرامة وعزه وشرفہ فهم عند ربهم احياء
امین من الہلاک والفناء يرزقون فرھین بما اتھم من
الفضل والعطاء رضی الله عنہم ورضوا عنه۔

رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی محبت

ہر شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل و فہم کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ یقین کے ساتھ جانتا ہے کہ جس کے ساتھ عقیدت و نیاز مندی ایمان میں داخل ہو اور بغیر اس کو مانے ہوئے آدمی مومن نہ ہو سکے۔ اس کی محبت تمام عالم سے زیادہ ضروری ہوگی۔ مان باب، اولاد، عزیز و اقارب کے بھی انسان پر حقوق ہیں اور ان کا ادا کرنا لازم ہے۔ لیکن ایک شخص اگر ان سب کو بھول جائے اور اس کے دل میں ایک شدید محبت والفت باقی نہ رہے اور ان سب سے محض بے تعلق ہو جائے تو اس کے ایمان میں کوئی خلل نہ آئے گا کیونکہ ایمان لائے میں ماں باپ عزیز و اقارب اولاد وغیرہ کامانہ لازم و ضروری نہ تھا۔ لیکن رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کامانہ مومین ہونے کے لئے ضروری ہے جب تک لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا معتقد نہ ہو گر گز مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اگر شرطتے محبت رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ثوٹا تو یقیناً ایمان سے خارج ہوا۔ کہ تصدیق رسالت بے محبت باتی نہیں رکھتی۔ اس لئے شرع مطہر نے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی محبت ہر شخص پر اس کے تمام خوبیش و اقارب اعزہ و احباب سے زیادہ لازم کی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا:-

آیت ۱:- یا يهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخَذُوا آبَاءَكُمْ وَأَخْوَانَكُمْ أَوْ لِيَاءَ انْسَبَ
اسْتَحْبُوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔

ترجمہ:- ”اے ایمان والو! اپنے باپ اور بھائیوں کو دوست نہ سمجھو۔ اگر وہ ایمان پر کفر پسند کریں اور تم میں سے جوان سے دوستی کریں۔ وہی ظالم ہیں۔“

آیت ۲:- قل ان کان اباء کم و ابناء کم و اخوانکم و ازواجکم
وعشيرتکم و اموال ن افسر فسموها و تجارة تخشنون کسادها و
مساکن ترضونها احب اليکم من الله و رسوله وجہاد فی سبیله

فتربعصوا حتیٰ یاتی اللہ بامرہ و اللہ لا یهدی القوم الفسقین ط
ترجمہ: ”فرماد مجھے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہاری عورتیں اور تمہارا
کنبہ اور تمہاری نمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تھیں ڈر ہے اور
تمہاری پسند کے مکان یہ چیزیں تھیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں
لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو انتظار کرو کہ اللہ اپنا حکم لائے اور اللہ فاسقوں کو راہ
نہیں دیتا۔“

آیت ۳:- وَالَّذِينَ يُوذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
ترجمہ: ”اور وہ جو رسول اللہ کو ایذا دیتے ہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔“

آیت ۴:- وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحْقَنَا بِمَا نَرَضَى إِنَّ كَانُوا مُؤْمِنِينَ
ترجمہ: ”اور اللہ اور رسول کا حق زائد تھا کہ انہیں راضی کرتے اگر ایمان رکھتے تھے۔“

آیت ۵:- الَّمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مِنْ يَحَادُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا
فِيهَا ذَلِكَ الْخَزِيرُ الْعَظِيمُ

ترجمہ:- کیا انہیں خیر نہیں کہ جو خلاف کرے اللہ اور رسول کا تو اس کے لئے جہنم کی آگ
ہے ہمیشہ اس میں رہے گا یہی بڑی رسائی ہے۔ مومنین اور مومنات کی شان میں
ارشاد فرمایا۔

آیت ۶:- وَيَطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ طَوْلَكَ سَيِّرَ حَمْمَمَ اللَّهُ طَانَ اللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

ترجمہ:- اور اللہ اور رسول کا حکم مانیں ہیں ہیں جن پر عنقریب اللہ حکم کرے گا یہ شک اللہ
 غالب حکمت والا ہے

آیت ۷:- مَا كَانَ لِهِ الْمَدِينَةُ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا

عن رسول اللہ ولا یرغبو بانفسهم عن نفسیه

ترجمہ:- ” مدینہ والوں اور ان کے گردیہات والوں کو لائق نہ تھا کہ رسول اللہ سے پیچھے بیٹھر ہیں اور نہ یہ کہ ان کی جان سے اپنی جان پیاری رکھیں“

ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آباؤ اجداد اولیاء اولادِ عزیز، اقارب، دوست احباب، مال و دولت، مسکن، وطن سب چیزوں کی محبت سے اور خود اپنی جان کی محبت سے زیادہ ضروری ولازم ہے اور اگر مال باب پ یا اولاد اللہ رسول کے ساتھ رابطہ عقیدت و محبت نہ رکھتے ہوں تو ان سے دوستی و محبت رکھنا جائز نہیں قرآن پاک میں اس مضمون کی صدھا آیتیں ہیں اب چند حدشیں پیش کی جاتی ہیں۔

حدیث (۱) بخاری و مسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یومن احد کم حتی اکون احب

الیه من والدہ و ولدہ والناس اجمعین

ترجمہ:- ”حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کوئی مومن نہیں ہوتا جب تک میں اسے اس کے والد اور اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ پیار اور محبوب نہ ہوں“

حدیث (۲) قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلث من کن فيه وجديہن حلاوة الایمان من کان اللہ و رسوله احب اليه مما سواهما ومن احب عبدا لا يحبه الا الله ومن يكره ان يعود في الكفر بعد ان انقلذه الله منه كما يكره ان يلقى في النار (رواہ البخاری و المسلم عن انس رضی اللہ عنہ)

ترجمہ:- ”حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمیں چیزیں جس میں ہوں وہ لذت و شیرینی ایمان کی پالیتا ہے (۱) جس کو اللہ و رسول سارے عالم سے زیادہ پیارے ہوں (۲) اور جو کسی بندے کو خاص اللہ کے لئے محبوب رکھتا ہو (۳) اور جو کفر سے رہائی پانے اور مسلمان ہونے کے بعد کفر میں لوٹنے کو ایسا براجانتا ہو جیسا اپنے آپ کو آگ میں ڈالے جانے کو براجانتا ہے“

حضور سے نسبت رکھنے والی چیزوں کو محبوب رکھنا حضور کی محبت میں داخل ہے قدرتی طور پر انسان جن سے محبت رکھتا ہے اس سے نسبت رکھنے والی تمام چیزیں اس کو محبوب ہو جاتی ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے بھی حضور کے وطن پاک کے رہنے والوں اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کو جان و دل سے محبوب رکھتے ہیں۔

حدیث (۳) عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احبو العرب لثلاث لانی عربی والقرآن عربی و کلام اهل الجنۃ (رواہ الترمذی)
ترجمہ:- حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے حضور اقدس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل عرب کو محبوب رکھو تین وجہ سے وہ یہ ہیں (۱) میں عربی ہوں (۲) قرآن عربی ہے اہل جنت کی زبان عربی ہے۔

حدیث (۴) عن عثمان بن عفان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غش العرب لم يدخل في شفاعتي ولم تثله مودتي (رواہ الترمذی)
وضعفه والضعف في مثل هذا المقام مقبولة)

ترجمہ:- حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے کرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اہل عرب سے بغض و کدورت رکھی میری شفاعت میں داخل نہ ہوگا اور میری مودت سے بھی فیض یا بندہ ہوگا۔

حدیث (۵) عن سلمان رضی الله عنه قال قال لي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ؛ تبغضنى فتفارق دينك قلت يا رسول الله كيف ابغضك ربك هدا نا الله قال تبغض العرب شبغضنى (رواہ الترمذی حسن)

ترجمہ:- ”حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے فرماتے ہیں کہ حضور اکرم رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ مجھ سے بغض نہ کرنا کہ دین میں جدا ہو جائے گا میں نے عرض کیا کہ حضور سے کیسے بغض کر سکتا ہوں۔

{10}

حضورتی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت فرمائی فرمایا کہ عربوں سے بغضہ کرے تو ہم سے بغضہ کرتا ہے۔

ان احادیث سے صاف ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے کی وجہ سے الٰل عرب کے ساتھ مجہت رکھنا مومن کے لئے لازم اور علمت ایمان ہے اور اگر کسی کے دل میں الٰل عرب کی طرف سے کدورت ہو تو یہ اس کے ایمان کا ضعف اور مجہت کی خاتی ہے۔ اور الٰل عرب تو حضور کے دلن پاک کے رہنے والے ہیں۔ حضور سے نسبت رکھنے والی ہر چیز مومن مخلص کے لئے قابل احترام اور محظوظ دل ہے صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور کی قدم گاہ کا ادب کرتے تھے چنانچہ منبر شریف کے جس درجہ پر حضور انور علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف رکھتے خلیفہ اول نے ادب اس پر بیٹھنے کی جرات نہ کی۔ اور خلیفہ دوم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نشست گاہ پر بھی بیٹھنے کی جرات نہ کی اور خلیفہ ثالث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشست گاہ پر بھی کبھی نہ بیٹھنے (رواه طبرانی عن ابن عمر رضی اللہ عنہما) اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے آہ و اصحاب کے ساتھ مجہت کرنا اور ان کے ادب و تعظیم کو لازم جانا کس قدر ضروری ہے اور یقیناً ان حضرات کی مجہت سید عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مجہت ہے اور حضور کی مجہت ایمان۔

حدیث (۶) عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فی اصحابی لا تلخدوهم عرضًا من بعدی فمن احتجهم فبحی احتجهم ومن ابغضهم فيبغضی ابغهم ومن اذا هم فقد اذانی اذی الله ومن اذی الله فيوشك ان ياخذه (رواه الترمذی)

حمدہ۔ "حضرت عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا کہ میرے اصحاب کے حق میں خدا سے ڈر و خدا کا خوف کرو۔ انہیں میرے بعد نشانہ نہ بناو۔ جس نے انہیں محظوظ رکھا میری مجہت کی وجہ سے محظوظ رکھا اور جس نے ان سے بغضہ رکھا وہ مجہے بغضہ رکھتا ہے اس نے اس سے بغضہ رکھا، جس نے انہیں ایذا دی اس نے پچھے ایذا

سوانح کربلا

{11}

دی جس نے بچھے ایذا دی اس نے پیشک اللہ تعالیٰ کو ایذا دی جس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے گرفتار کرے۔"

مسلمان کو چاہیے کہ صحابہ کرام کا نہایت ادب رکھے اور دل میں ان کی عقیدت و محبت کو جگہ دے ان کی محبت حضور کی محبت ہے اور جو بد نصیب صحابہ کی شان میں بے ادبی کے ساتھ زبان کھولے وہ دشمن خدا رسول ہے مسلمان ایسے شخص کے پاس نہ بیٹھے۔

حدیث (۷) عن ابن عمر قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الدين يسبون اصحابي فقولوا العنة الله على شركم (رواه الترمذی)

ترجمہ:- حضور اقدس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے اصحاب کی بدگوئی کرتے ہیں تو کہہ دو کہ تمہارے شرپر خدا کی لعنت۔ ان احادیث سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا مرتبہ اور مونس کے لئے ان کے ساتھ مجہت اور اخلاص و ادب و تعظیم کا لازم ہونا اور ان کے بدگویوں سے دور رہنا ثابت ہوا اسی لئے الٰل سنت کو جائز ہیں کہ شیعوں کی مجلس میں شرکت کریں۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے میل جوں مونس خالص الاعتقاد کا کام نہیں۔ آدمی اپنے حضرت ابو بکر صدیق و ۲۔ سیدنا حضرت عمر فاروق۔ ۳۔ سیدنا حضرت عثمان غنی۔ سیدنا حضرت علی الرضا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا مرتبہ سب سے بلند و بالا ہے۔

سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی عبد اللہ ہے آپ کے آباء اجداد کے اماء یہ ہیں۔ عبد اللہ (ابو بکر صدیق) بن الی قافذ عثمان بن عاصم بن عمرو بن کعب بن سعد بن قیم بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب قرشی، حضرت صدیق اکبر کا نبض حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبض پاک سے مرہ میں ملتا ہے۔ آپ کا لقب تیق و صدیق ہے۔ ابو یعلیٰ نے اپنی مندی میں اور ابن سعد و حاکم نے ایک حدیث صحیح ام المؤمنین حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی ہے وہ فرماتی ہیں کہ ایک روز میں مکان میں تھی اور اصحاب کبار صحن میں تھے میرے ان کے درمیان پرده پر اتحا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو "عیسیق (۱) من النار" کا دیکھنا اچھا معلوم ہو وہ ابو بکر کو دیکھئے اس روز سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب عیسیق ہو گیا آپ کا ایک لقب صدیق ہے این اسحاق و حسن بصری اور قادہ کہتے ہیں کہ صح شہ معراج سے آپ کا یہ لقب مشہور ہوا۔ متدرک میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مشرکین پہنچے اور واقعہ معراج جوانہوں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ساتھا حضرت ابو بکر کو ناکر کہنے لگے کہاب حضور کی نسبت کیا کہتے ہو؟ آپ نے فرمایا لقد صدق انی لا صدقہ (حضور نے یقیناً سچ فرمایا، میں حضور کی تقدیم کرتا ہوں) اسی وجہ سے آپ کا لقب صدیق ہوا۔ حاکم نے متدرک میں نزال بن اسرہ سے باشاد جید روایت کی کہ ہم نے حضرت علی الرضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت دریافت کیا تو آپ نے فرمایا

سوانح کربلا

کہ یہ شخص ہیں جن کا نام اللہ تعالیٰ نے بربان جبریل امین و بربان سردار نبیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صدیق رکھا، وہ نماز میں حضور کے خلیفہ تھے، حضور نے اُنہیں ہمارے دین کے لئے پسند فرمایا تو ہم اپنی دنیا کے لئے ان سے راضی ہیں۔ (یعنی خلافت پر) واقعی و حاکم نے ابو بیجن سے روایت کی کہ میں شمار نہیں کر سکتا کہ کتنی مرتبہ میں نے حضرت علی الرضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بر سر ممبر پر یہ فرماتے سنائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان پر ابو بکر کا نام صدیق رکھا۔ طبرانی نے بند جید صحیح حکیم بن سعد سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت علی الرضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخلاف فرماتے سنائے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا نام صدیق آسمان سے نازل فرمایا۔

حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور انور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے دو سال چند ماہ بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے یہی تھج ہے اور یہ جو شہر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ ہم بڑے ہیں یا تم انہوں نے عرض کیا کہ بڑے حضور ہیں، عمر میری زیادہ ہے یہ روایت مرسلاً غریب ہے اور واقعہ میں یہ نکتہ حضرت عباس سے پیش آئی تھی۔

آپ کے مکہ مکرمہ میں سکونت رکھتے تھے۔ بسلسلہ تجارت باہر بھی تشریف لے جاتے تھے اپنی قوم میں بہت بڑے دولت مند اور صاحب مروت و احسان تھے۔ زمانہ جاہلیت میں قریش کے رئیس اور ان کی مجلس شوریٰ ای کے رکن تھے۔ معاملہ بھی و دانائی میں آپ شہرت رکھتے تھے اسلام کے بعد آپ بالکل اسی طرف مصروف ہو گئے اور سب باتوں سے دل ہٹ کیا زمانہ جاہلیت میں آپ کا چال چلن نہایت پاکیزہ اور افعال نہایت مثیں و شاکستہ تھے۔ ابن عساکر نے ابوالعالیٰ رہباجی سے نقل کیا ہے کہ جمیع اصحاب میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے زمانہ جاہلیت میں کبھی شراب پی ہے؟ فرمایا پناہ بخدا، اس پر کہا گیا، یہ کیوں؟ فرمایا میں اپنی مروت و آبرو کی حفاظت کرتا تھا اور شراب پیئے

(۱) مجلس شوریٰ کی رکیت ایک بڑا منصب تھا۔ عرب میں کوئی بادشاہ و تھانیں تمام امور ایک کمیٹی میں متعلق تھے جس کے دن بھر تھے کوئی جگ کا، کوئی مالیات کا، کوئی کسی اور کام کا اور ہر ممبر اپنے مکمل کی ولادت عامہ اور اختیار کا مل رکھتا تھا۔

والے کی مردود و آبرو براد ہو جاتی ہے یہ بخ حضور اقدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہنچی تو حضور نے دو مرتبہ فرمایا کہ ابو بکر نے حق کہا۔

حضرت صدیق کا اسلام

محدثین کی جماعت کیشراہ اس پر زور دیتی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام لائے۔ ابن عساکر نے حضرت علی الرضا کرم اللہ وجہ سے روایت کی ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با ایمان ہوئے اور عورتوں میں حضرت ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نو عمر صاحبزادوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین خشیہ نے بنت حمیج زید بن ارقم سے روایت کی کہ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھنے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابن اسحاق نے ایک حدیث روایت کی کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے ابو بکر کے اور کوئی ایسا شخص نہیں جو میری دعوت پر بے توقف و تال ایمان لا یا ہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام لانے کے وقت سے دم آخوند حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات صحبت سے فیض یاب رہے۔ اور سفر و حضر میں کہیں حضور سے جدا نہیں ہوئے اور سوائے اس حج و غزوہ کے جس کی حضور نے اجازت عطا فرمائی اور کوئی سفر حضور سے علیحدہ نہ کیا تمام مشاہد میں حضور کے ساتھ حاضر ہوئے حضور کے ساتھ بھرت کی اور اپنے عیال واولاد کو خدا اور رسول کی محبت میں چھوڑ دیا۔ آپ جو دوستا میں اعلیٰ مرتبہ رکھتے ہیں اسلام لانے کے وقت آپ کے پاس چالیس ہزار دینار تھے یہ سب اسلام کی حمایت میں خرچ فرمائے۔ بردوں کو آزاد کرنا، مسلمان اسیروں کو چھڑانا آپ کا ایک پیارا شغل تھا۔ بذل و کرم میں حاتم طالی کو آپ سے کچھ بھی نسبت نہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم پر کسی شخص کا احسان نہ رہا، ہم نے سب کا بدله دے دیا سوائے ابو بکر کے کہ ان کا بدله اللہ تعالیٰ روز قیامت عطا فرمائے گا اور مجھ کی کے مال نے وہ نہ نہیں دیا جو ابو بکر کے مال نے دیا۔ (رواہ اترمذی عن ابی ہریرہ)

زہبی صدیق کے حضور انوار سلطان دارین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی شان میں یہ کلے ارشاد فرمائے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبہ کرام میں سب سے علم و اذکی ہیں اس کا بارہا صاحبہ کرام نے اعتراف فرمایا ہے قرات قرآن، علم انساب علم تعبیر میں آپ فضل جمل رکھتے ہیں قرآن کریم کے حافظ ہیں۔
(ذکرہ النووی فی العہذیب)

فضیلت

{۱۶}

اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ انہیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد تمام عالم سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ ان کے بعد حضرت عمر بن کے بعد حضرت عثمان بن کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کے بعد تمام عشرہ مبشرہ، ان کے بعد باقی اہل بدران کے بعد باقی اہل احمدان کے بعد باقی اہل بیت، پھر تمام صحابہ یا اجماع ابو منصور بغدادی نے نقل کیا ہے۔

ابن عساکر نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی فرمایا کہ ہم ابو بکر و عمر و عثمان ولی کو فضیلت دیتے تھے بمالکہ سرور اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام ہم میں تشریف فرمائیں امام احمد وغیرہ نے حضرت علی الرضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا کہ اس امت میں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد سب سے بہتر ابو بکر و عمر ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔

ذہبی نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تواتر منتقل ہے ابن عساکر نے عبد الرحمن بن الی یلی سے روایت کی کہ حضرت علی الرضا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ نے فرمایا، جو مجھے حضرت ابو بکر و عمر سے افضل کہے گا تو میں اس کو مفتری کی سزا دوں گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بہت آئیں اور بکثرت حدیثیں وارد ہوئی ہیں جن سے آپ کے فضائل جلیلہ معلوم ہوتے ہیں چند احادیث یہاں ذکر کی جاتی ہیں۔

ترمذی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق سے فرمایا تم نیرے صاحب ہو ہوش کو شرپ اور تم میرے صاحب ہو غار میں، ابن عساکر نے ایک حدیث نقل کی کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ نیکی کی تین سو سانچھ خصلتیں ہیں حضرت صدیق نے عرض کیا کہ حضور ان میں سے کوئی بھی مجھ میں ہے فرمایا تم میں وہ سب ہیں تمہیں مبارک ہو۔ انہیں ابن عساکر نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ

سوانح کربلا

{۱۷}

ابو بکر کی محبت اور ان کا شکر میری تمام امت پر واجب ہے۔

بخاری نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سید و مدار ہیں۔

طبرانی نے اوسط میں حضرت علی الرضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی آپ نے فرمایا بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب سے بہتر ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ میری محبت اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا شخص کسی مومن کے دل میں جمع نہ ہوگا۔

خلافت

بکثرت آیات و احادیث آپ کی خلافت کی طرف مشیر ہیں۔ ترمذی و حاکم نے حضرت حذیفہ سے روایت کی کہ حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا، جو لوگ میرے بعد ہیں، ابو بکر و عمر ان وغیرہ کا تابع کرو۔

ابن عساکر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ ایک عورت حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی پکھ دریافت کرتی تھی حضور نے اس سے فرمایا پھر آئئے گی، عرض کی، اگر میں پھر حاضر ہوں اور حضور کو نہ پاؤں یعنی اس وقت حضور پر وہ فرمائیں، اس پر حضور نے فرمایا کہ اگر تو آئئے اور مجھے نہ پائے تو ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہو جانا کیونکہ میرے بعد وہی میرے خلیفہ ہیں۔

بخاری و مسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشتری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام مریض ہوئے اور مرض نے نلبہ کیا تو فرمایا کہ ابو بکر کو حکم کرو کہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زم دل آدی ہیں آپ کی جگہ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھائیں گے۔ فرمایا، حکم دو ابو بکر کو نماز پڑھائیں۔ حضرت صدیقہ نے پھر وہی عذر پیش کیا حضور نے پھر یہی حکم تاکید فرمایا اور حضرت ابو بکر نے حضور کی حیات مبارک میں نماز پڑھائی۔ یہ حدیث متواتر ہے۔ حضرت عائشہ و ابن مسعود و ابن عباس و ابن عمر و عبد اللہ بن زمعہ ابن سعید و علی بن ابی طالب و هفصہ وغیرہ رضوان اللہ تعالیٰ

اجمیعین سے مروی ہے علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس پر بہت واضح دلالت ہے کہ حضرت صدیق مطلاقاً تمام صحابہ سے افضل اور خلافت و امامت کے لئے سب سے الحق سے اولیٰ ہیں۔

اشعری کا قول ہے کہ حضور نے صدیق کو امامت کا حکم دیا جبکہ انصار و مهاجرین حاضر تھے۔ اور حدیث میں ہے کہ قوم کی امامت وہ کرے جو سب میں اقراء ہواں سے معلوم ہوا ہے کہ حضرت صدیق تمام صحابہ میں سب سے اقراء اور قرآن کریم کے سب سے بڑے عالم تھے اسی لئے صحابہ کرام نے «حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق بالخلافہ ہونے کا استدلال کیا ہے ان استدلال کرنے والوں میں سے حضرت عمر اور حضرت علی بھی ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔

ایک جماعت علماء نے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آیات قرآنیہ سے مستدیٹ کی ہے۔ وقد ذکر رہا الشیخ جلال السیوطی رحمة الله عليه فی تاریخہ عادہ بریں اس خلافت راشدہ پر صحابہ اور تمام امت کا اجماع ہے لہذا اس خلافت کا منکر شرع کا مخالف اور گراہ بد دین ہے۔ حضرت صدیق کا زمانہ خلافت مسلمانوں کے لئے ظل رحمت ثابت ہوا۔ اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطرات عظیمہ اور ہولناک اندریشی پیش آ کئے تھے وہ حضرت صدیق کی رائے صاحب تدبیر صحیح اور کامل دین داری و زبردست اتباع سنت کی برکت سے دفع ہوئے اور استحکام حاصل ہوا کہ کفار و منافقین لرزنے لگے اور ضعیف الایمان لوگ پختہ مومن بن گئے آپ کی خلافت راشدہ کا عہد اگرچہ بہت تھوڑا اور زمانہ نہایت قلیل ہے لیکن اس سے اسلام کو ایسی عظیم الشان تاسیس ہیں اور قوتیں حاصل ہوئیں کہ کسی زبردست حکومت کے طویل زمانہ کو اس سے کچھ نسبت نہیں ہو سکتی۔

آپ کے عبد مبارک کے چند اہم واقعات یہ ہیں کہ آپ نے جیش اسامہ کی تنقید کی جس کو حضور انور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے عبد مبارک کے آخر میں شام کی طرف روانہ فرمایا تھا۔ ابھی یہ لشکر تھوڑی ہی دور پہنچا تھا اور مدینہ طیبہ کے قریب مقام ذخیرہ ہی میں

تھا کہ حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس عالم سے پردہ فرمایا یہ خبر سن کر اطراف مدینہ کے عرب اسلام سے پھر گئے اور مرد ہو گئے صحابہ کرام نے مجتمع ہو کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زور دیا کہ آپ اس لشکر کو واپس بلا لیں اس وقت اس لشکر کا روانہ کرنا کسی طرح مصلحت نہیں مدینہ کے گرد تو عرب کے طوائف کثیرہ مرد ہو گئے اور لشکر شام کو تھیج دیا جائے اسلام کے لئے یہ نازک ترین وقت تھا حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وفات سے کفار کے حوصلے بڑھ گئے تھے اور ان کی مردہ ہمتوں میں جان پڑ گئی تھی۔ منافقین سمجھتے تھے کہ اب کھیل کھیلنے کا وقت آگیا ضعیف الایمان دین سے پھر گئے مسلمان ایک ایسے صدمہ میں شکستہ دل اور بے تاب و ناتوان ہو رہے تھے جس کا مثل دنیا کی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا ان کے دل گھاکل ہیں اور آنکھوں سے اشک جاری ہیں۔ کھانا پینا برا معلوم ہوتا ہے زندگی ایک ناگوار مصیبت نظر آتی ہے اس وقت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جانشین کو نظم قائم کرنا، ایک ناگوار مصیبت نظر آتی ہے اس وقت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جانشین کو نظم قائم کرنا، دین کا سنبھالنا، مسلمانوں کی حفاظت کرنا، امرتاد کے سیالاب کو روکنا کس قدر دشوار تھا باوجود اس کے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے روانہ کئے ہوئے لشکر کو واپس کرنا اور مرضی مبارک کے خلاف جرات کرنا، صدیق سرپا صدق کارابطہ نیاز مندی گوارانہ کرتا تھا اور اس کو وہ ہر مشکل سے سخت تر سمجھتے تھے۔ اس پر صحابہ کا اصرار کہ لشکر کو واپس بلا لیا جائے اور خود حضرت اسامہ کا لوث آنا اور حضرت صدیق سے عرض کرنا کہ قبل عرب آمادہ جنگ اور در پیغام تحریب اسلام ہیں اور کار آزمایہ درمیزے لشکر میں ہیں انہیں اس وقت روم پر بھیجننا اور ملک کو ایسے دل اور مردان جنگ سے خالی کر لینا کسی طرح مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ یہ حضرت صدیق کے لئے اور مشکلات تھیں۔ صحابہ کرام نے اعتراف کیا ہے کہ اس وقت اگر حضرت صدیق کی جگہ دوسرا ہوتا تو ہرگز مستقل نہ رہتا اور مصائب و افکار کا یہ بحوم اور اپنی بذماعت کی پریشانیات مبہوت کڑا تھی مگر اللہ اکابر حضرت صدیق کے پائے ثبات کو ذرہ بھر لغزش نہ ہوئی اور ان کے استقلال میں ایک شہر فرق نہ آیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر پرند میری بویاں نوچ کھائیں تو مجھے یہ گوارا ہے مگر حضور انور سید عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مرضی مبارک میں اپنے رائے کو دل دینا اور حضور کے روانہ کئے ہوئے لشکر کو واپس کرنا ہرگز گوارا نہیں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔

چنانچہ ایسی حالت میں آپ نے لشکر روانہ فرمادیا۔

اسی سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیرت انگیز شجاعت و لیاقت اور کمال دلیری و جوانمردی کے علاوہ ان کے توکل صادق کا پتہ چلتا ہے اور دشمن بھی انصافاً یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ قدس نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد خلافت و باشیمی کی اصل قابلیت والہیت حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی۔ اب یہ لشکر روانہ ہوا اور جو قبائل مرتد ہونے کے لئے تیار تھے اور یہ سمجھے چکے تھے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد اسلام کا شیرازہ درہ بہم ہو جائے گا اور اس کی سطوت و شوکت باقی نہ رہے گی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اسلام کا لشکر دمیوں کی سرکوبی کے لئے روانہ ہو گیا۔ اسی وقت ان کے خیالی مندو بے غلط ہو گئے انہوں نے سمجھ لیا کہ سید عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے عبد مبارک میں اسلام کے لئے ایسا بروز نظم فرمادیا ہے جس سے مسلمانوں کا شیرازہ درہ بہم نہیں ہو سکتا اور وہ ایسے غم و اندوہ کے وقت میں بھی اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور اس کے سامنے اقوام عالم کو سرگوں کرنے کے لئے ایک مشہور و بروز نظم فوج کشی کرتے ہیں لہذا یہ ذیوال نما نہ کہ اسلام ہست جائے گا اور اس میں کوئی قوت باقی نہ رہے گی بلکہ ابھی صبر کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ لشکر کس شان سے واپس ہوتا ہے فضل الہی سے یہ لشکر ظفر پیکر فتح یا بہا۔ روہیوں کو ہریت ہوئی جب یہ فتح لشکر واپس آیا تو وہ تمام قبائل جو مرتد ہونے کا ارادہ کر چکے تھے اس ناپاک قصد سے بازاڑے اور اسلام پر صدق کے ساتھ قائم ہوئے۔ بڑے بڑے طیلِ القدر صاحب الرائے صحابہ جو اس لشکر کی روائی کے وقت نہایت شدت سے اختلاف فرمائے تھے اپنی فکر کی خطا اور صدیق کی رائے مبارک کے صاحب اور ان کے لعم کی وسعت کے مترف ہوئے۔

اسی خلافت مبارک کا ایک واقعہ معین زکوٰۃ کے ساتھ عزم مقابل ہے جس کا منظر حال یہ ہے جب حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کی خبر مدینہ طیبہ کے حوالی و اطراف میں مشہور ہوئی تو عرب پر کے بہت سے گروہ مرتد ہو گئے اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ رسول اللہ تعالیٰ کرمه تعالیٰ مسلمان فتح یا بہ عمان میں بھی لوگ مرتد ہو گئے تھے وہاں عکرہ بن ابی

علیہم السلام نے وقت کی نزاکت، اسلام کی نو عمری، دشمنوں کی قوت، مسلمانوں کی پریشانی، پر اگندی خاطرہ کا لحاظ فرمادیا کہ اس وقت جنگ کے لئے ہتھیار نہ اٹھائے جائیں مگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ارادہ پر مضمونی کے ساتھ قائم رہے اور آپ نے فرمایا تبسم بخدا جو لوگ زمانہ اقدس میں ایک تمہاری کی قیمت بھی ادا کرتے تھے اگر آج انکار کریں گے تو میں ضرور ان سے مقابل کروں گا۔ آخر کار آپ مقابل کے لئے اٹھے اور مہاجرین و انصار کو ساتھ لیا اور اعراب اپنی ڈریوں کو لے کر بھاگے۔ پھر آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر ہنایا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح دی اور صحابہ نے خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحت تدبیر اور اصابت رائے کا اظہار کیا اور کہا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق کا سیدہ کھول دیا جو انہوں نے کیا حق تھا اور واقعہ بھی یہی ہے کہ اگر اس وقت کمزوری دکھائی جاتی تو ہر قوم اور ہر قبیلہ کو احکام اسلام کی بے حرمتی اور ان کی مخالفت کی جرأت ہوتی اور دین حق کا نظم باقی نہ رہتا یہاں سے مسلمانوں کو سبق لینا چاہیے کہ جو قوم میں حق کی حمایت اور ناحق کی مخالفت میں سستی کرے گی جلد تباہ ہو جائے گی آج کل کے سادہ لوح فرق بالعلم کے درکرے کو بھی منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کی جنگ موقوف کرو۔ انہیں حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طریق عمل سے سبق لینا چاہیے کہ آپ نے اپنے ناڑک وقت میں بھی باطل کی سرشنی میں توقف نہ فرمایا جو فرقے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لئے پیدا ہوئے ہیں ان سے غفلت کرنا یقیناً اسلام کی نقصان رسانی ہے۔

پھر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر یامہ کی طرف مسیلمہ کذاب کے مقابل کے لئے روانہ ہوئے۔ دونوں طرف سے لشکر مقابل ہوئے چند روز جنگ رہی آخراً امر مسیلمہ کذاب وحشی (قاتل حضرت امیر حمزہ) کے ہاتھ سے مارا گیا مسیلمہ کی عمر قتل کے وقت ڈیڑھ سو برس کی تھی ۱۲۷ھ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علاء ابن حضری کو بھریں کی طرف روانہ کیا۔ وہاں کے لوگ مرتد ہو گئے تھے جو اُن میں ان سے مقابلہ ہوا اور بہ کرمہ تعالیٰ مسلمان فتح یا بہ عمان میں بھی لوگ مرتد ہو گئے تھے وہاں عکرہ بن ابی

جملہ کو روانہ فرمایا۔ بحرہ کے مرتدین پر مہاجرین الی امیریہ کو بھیجا مرتدین کی ایک اور جماعت پر زہابن لبید انصاری کو روانہ کیا اسی سال مرتدین کے قبال سے فارغ ہو کر حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرز میں بصرہ کی طرف روانہ کیا آپ نے اہل الیہ پر جہاد کیا اور ایلہ فتح ہوا اور کسری کے شہر جو عراق میں تھے فتح ہوئے اس کے بعد آپ نے عمرو بن عاص اور اسلامی شکروں کو شام کی طرف بھیجا۔ اور جمادی الآخری ۱۳ھ میں واقعہ اجادین پیش آیا اور بفضلہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اس سال واقع مردوں الصفر ہوا اور مشرکین کو ہزیرت ہوئی۔

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے تھوڑے سے زمانہ میں شب و روز کی پیغمبیری سے بد خواہان اسلام کے حوصلے پست کر دیئے اور ارتاداد کا سیلا ب روک دیا۔ کفار کے قلوب میں اسلام کا وقار راخ ہو گیا اور مسلمانوں کی شوکت و اقبال کے پھریے عرب و چم بحر و مریں اڑنے لگے۔

آپ قرآن کریم کے پہلے جامع ہیں اور آپ کے عہد مبارک کا زرین کارنامہ ہے آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جہادوں میں وہ صحابہ کرام جو حافظ قرآن تھے شہید ہونے لگے تو آپ کو اندیشہ ہوا کہ اگر تھوڑے زمانہ بعد حفاظت باقی نہ رہے تو قرآن پاک مسلمانوں کو کہاں سے میسر آئے گا یہ خیال فرماتے آپ نے صحابہ کو جمع قرآن کا حکم دیا اور مصاحف مرتب ہوئے۔

وفات

آپ کی وفات کا اصلی سبب حضور انور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہے جس کا صدمہ دم آخر تک آپ کے قلب مبارک سے کم نہ ہوا۔ اور اس روز سے برابر آپ کا جسم شریف گھلتا اور دلا ہوتا گیا۔ جمادی الآخری ۱۴ھ جری بروز دوشنبہ کو آپ نے غسل فرمایا، دن سر دھما، بخار آگیا، صحابہ عیادت کے لئے آئے عرض کرنے لگے اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہو تو ہم طبیب کو بلا اکیں جو آپ کو دیکھے فرمایا کہ طبیب نے تو مجھے دیکھ لیا

انہوں نے دریافت کیا کہ پھر طبیب نے کیا کہا۔ فرمایا کہ اس نے فرمایا انسی فعال لاما ارید یعنی میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ مراد یہ تھی کہ حکیم اللہ تعالیٰ ہے اس کی مرضی کو کوئی نال نہیں سکتا جو مشیت ہے ضرور ہو گا۔ یہ حضرت کا توکل صادق تھا اور رضاۓ حق پر راضی تھے۔ اسی بیماری میں آپ نے عبد الرحمن، علی المرضی اور حضرت عثمان غنی وغیرہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم السلام کے مشورے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بعد خلافت کے لئے نامزد فرمایا اور پندرہ روز کی علاالت کے بعد ۲۲ جمادی الآخری ۱۴ھ شب سے شبکہ کو تریٹھ سال کی عمر میں اس دارنا پائیدار سے رحلت فرمائی۔ انا اللہ وانا الیه راجعون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی جنازہ کی نماز پڑھائی اور آپ اپنی وصیت کے مطابق پہلوئے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں مدفن ہوئے آپ نے دو سال سات ماہ کے قریب خلافت کی آپ کی وفات سے مدینہ طیبہ میں ایک شور بر پا ہو گیا آپ کے والدابو قافز نے جن کی عمر اس وقت ستانوں میں برس کی تھی دریافت کیا کہ یہ کیسا غوغاء ہے لوگوں نے کہا کہ آپ کے فرزند نے رحلت فرمائی کہا بڑی مصیبت ہے ان کے بعد خلافت کوں انجام دے گا؟ کہا گیا حضرت عمر آپ کی وفات سے چھ ماہ بعد آپ کے والدابو قافز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رحلت فرمائی۔ کیا خوش نیسیب ہیں۔ خود صحابی والد صحابی بیٹے صحابی پوتے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضو عنہ۔

خلیفہ دوم

سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد فضل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجداد کے اسامی یہ ہیں۔ عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیز بن رماج بن قرط رذاخ بن عدی بن کعب بن لوئی۔

آپ عام فیل کے نیرہ برس بعد پیدا ہوئے (نووی) آپ اشراف قریش میں سے ہیں زمانہ جاہلیت میں منصب سفارت آپ کی طرف مفوض تھا۔ آپ کی کنیت ابو حفص اور لقب فاروق ہے آپ قدیم الاسلام ہیں۔ چالیس مردوں، گیارہ عورتوں یا ۴۵ مردوں گیارہ عورتوں کے بعد اسلام لائے۔ آپ کے مسلمان ہونے سے اسلام کی قوت و شوکت زیادہ ہوئی مسلمان نہایت مسرور ہوئے۔ آپ ساتین اوپنیں اور عشرہ مشیرہ بالجنۃ اور خلفاء راشدین میں سے ہیں۔ صحابہ کرام کے کبار علماء زہاد میں آپ کا ممتاز مرتبہ ہے ترمذی کی حدیث میں ہے کہ حضور انور علیہ الصلوٰۃ والسلام دعا فرماتے تھے کہ یا رب عمر بن خطاب اور ابی جہل بن ہشام میں سے جو تھے پیارا ہواں کے ساتھ اسلام کو عزت دے۔

حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہً یارب "اسلام کو خاص عمر بن خطاب کے ساتھ غلبہ و قوت عطا فرم۔" حضور کی دعا قبول ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے چھٹے سال ۷ بریں میں شرف باسلام ہوئے۔

ابو یعلیٰ وہ حاکم وہیقی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضرت عمر

رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر نکلے راہ میں آپ کو قبیلہ بنی زہرا کا ایک شخص ملا کہنے لگا کہاں کا ارادہ ہے۔ آپ نے کہا میں (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے قتل کا ارادہ رکھتا ہوں اس نے کہا کہ میرے خیال میں تو بھی دین سے پھر گیا۔ اس نے کہا میں آپ کو اس سے عجیب تر بتانا ہوں آپ کی بہن اور بہنوئی دونوں نے آپ کا دین ترک کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پہنچے وہاں حضرت جباب تھے اور وہ لوگ سورہ طہ کی تلاوت کر رہے تھے جب انہوں نے حضرت عمر کی آہت سنی تو مکان میں چھپ گئے حضرت عمر نے مکان میں داخل ہو کر کہا، تم کیا کہدا ہے ہو۔ کہا ہم آپس میں باتیں کرو رہے تھے حضرت عمر کہنے لگے شاید تم لوگ بے دین ہو گئے ہو۔ آپ کے بہنوئی نے کہا۔ عمر! اگر تمہارے دین کے سوا کسی اور دین میں حق ہو اتنا کلمہ سنتے ہی حضرت عمر ان پر ٹوٹ پڑے۔ اور انہیں بہت مارا۔ انہیں بچانے کے لئے آپ کی بہن آئیں بھی مارا حتیٰ کہ ان کا چہرہ خون آسود ہو گیا انہوں نے غصب ناک ہو کر کہا کہ تیرے دین میں حق نہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضرت عمر نے کہا مجھے وہ کتاب دو جو تمہارے پاس ہے۔ میں اسے پڑھوں۔ ہمیشہ صاحبہ نے فرمایا کہ تم ناپاک ہو اور اس کو پاکوں کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا۔ ٹھوٹشل کرو یا وضو کرو اور کتاب پاک لے کر پڑھاٹہ اما انزلنا عليك القرآن لتشقی یہاں تک کہ آپ انسی انا اللہ لا اللہ الا انا فاعبد نی واقم الصلوٰۃ لذکری تک پہنچ تو حضرت عمر نے فرمایا مجھے (حضور پر نور) محمد (مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم) کے پا، اے چلو یہ سن کر حضرت ختاب ماہر نکلے اور انہوں نے کہا مبارک ہوئے عمر! میں امید کرتا ہوں کہ تم ہی دعائے رسول نبیہ الصلوٰۃ والسلام ہو پنجشنبہ کو حضور نے دعا فرمائی تھی یارب اسلام کو عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام سے قوت عطا فرم۔ حضرت عمر اس مکان پر آئے جس میں حضور تشریف فرماتھے دروازے پر حضرت حمزہ و ظلحا و دروسرے لوگ تھے حضرت حمزہ نے فرمایا یہ عمر ہیں اگر اللہ تعالیٰ کو ان کی بھلائی منتظر ہو تو ایمان لا کیں ورنہ ہمیں ان کا قتل کرنا سہل ہے۔ حضور پر نور پر اس وقت وہی آرہی تھی حضور

باہر شریف لائے اور حضرت عمر کے کپڑے اور تلوار کی حماں پکڑ کر فرمایا اے عمر ا تو باز نہیں آتا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ تجوہ پر وہ عذاب اور رسائی نازل فرمائے جو ولید ابن مغیرہ پر نازل فرمائی۔ حضرت عمر نے عرض کیا اشہد ان لا اللہ الا اللہ و انک عبد اللہ و رسولہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے قرآن شریف پڑھا اسی وقت اس کی عظمت میرے دل میں اثر کر گئی اور میں نے کہا کہ بد نصیب قریش ایسی پاکیزہ کتاب سے بھاگتے ہیں۔ اسلام لانے کے بعد آپ با جا زت نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام و صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کرنے لئے۔ ایک صفحہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلا دن تھا کہ مسلمان اس اعلان اور شوکت کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے کفار قریش دیکھ دیکھ کر جل رہے تھے اور انہیں نہایت صدمہ تھا آج اس ظہور اسلام اور حق و باطل میں فرق و امتیاز ہو جانے پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا۔

ابن عاصی و حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ حضرت جرجیل بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل آسان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کی خوشیاں منار ہے ہیں۔

ابن عاصی کرنے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی آپ نے فرمایا کہ میں جہاں تک جانتا ہوں جس کسی نے بھی بھرت کی چھپ کر ہی کی بھر حضرت عمر بن خطاب کے آپ کی بھرت کی پیشان تھی کہ مسلخ ہو کر خانہ کعبہ میں آئے۔ کفار کے سروار وہاں موجود تھے آپ نے سات مرتبہ بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور مقام ابراہیم میں دور کعین ادا کیں پھر قریش کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے اور للاکار کر فرمایا کہ جو اس کے لئے تیار ہو کے اس کی ماں اسے روئے اور اس کی اولاد بیتیم ہو۔ یہوی رائٹ ہو وہ میدان میں میرے مقابل آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ کلمات سن کر ایک سننا چھا گیا۔ کفار میں سے کوئی جنبش نہ کر سکا۔

آپ کی فضیلت میں بہت کثرت سے حدیثیں وارد ہوئیں اور ان میں بڑی جملی فضیلیتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ حتیٰ کہ تنہی و حاکم کی صحیح حدیث میں وارد ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی مکن ہوتا حضرت عمر بن خطاب ہوتے رضی اللہ عنہ۔ اس سے جلالت و منزلت و رفت و درجت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہر ہے۔ ابن عاصی کر کی حدیث میں وارد ہے کہ حضور انس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسان کا ہر فرشتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توقیر کرتا ہے اور زمین کا ہر شیطان ان کے خوف سے لرزتا ہے۔

طبرانی نے اوسط میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حضرت عمر سے بعض رکھا اس نے مجھ سے بعض رکھا اور جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب رکھا۔ اس نے مجھے محبوب رکھا۔

طبرانی و حاکم نے روایت کی کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا علم میزان کے ایک پلے میں رکھا جائے اور روئے زمین کے تمام زندہ لوگوں کے علوم ایک پلہ میں تو یقیناً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ان سب کے علوم سے زیادہ وزنی ہو گا۔ ابو اسماعیل نے کہا جانتے ہو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کون ہیں یا اسلام کے پدرو مادر ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس سے بری و بیزار ہوں جو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذکر بدلی کے ساتھ کرے۔

کرامات

آپ کی کرامات بہت ہیں ان میں سے چند مشہور کراماتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ یعنی وابو نعیم وغیرہ محدثین نے بطريق معتبر روایت کیا کہ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اثناء خطبہ میں تین مرتبہ فرمایا سالویۃ الجبل حاضرین متوجه متوجہ ہوئے کہ اثناء خطبہ میں یہ کلام ہے۔ بعد کو آپ سے دریافت کیا گیا کہ آج آپ نے خطبہ فرماتے فرماتے یہ کیا کلمہ فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ لشکر اسلام جو ملک عمجم میں مقام نہادنڈیں کفار کے

ساتھ مصروف پیکار ہے۔ میں نے دیکھا کہ کفار اس کو دونوں طرف سے گھیر کر مارنا چاہتے ہیں۔ ایسی حالت میں میں نے پکار کر کہہ دیا کہ اے ساریہ جبل یعنی پہاڑ کی آڑلو۔ یہ سن کر لوگ منتظر ہے کہ لشکر سے کوئی خبر آئے تو تفصیلی حال دریافت ہو۔ کچھ عرصے کے بعد ساریہ کا قاصد خط لے کر آیا اس میں تحریر تھا کہ جمعہ کے روز دشمن سے مقابلہ ہو رہا تھا خاص نماز جمعہ کے وقت ہم نے نایا ساریہ الجبل یہ سن کر ہم پہاڑ سے مل گئے اور ہمیں دشمن پر غلبہ حاصل ہوا یہاں تک کہ دشمن کو ہزیرت ہوئی۔

سبحان اللہ خلیفہ اسلام کی نظر مدینہ طیبہ سے نہادنڈ میں لشکر کا ملاحظہ فرمائے اور یہاں سے مذاکرے تو لشکر کو اپنی آواز ننانے نہ کوئی دور بین ہے نہ ٹیکی فون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کا صدقہ ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔

ابو القاسم نے اپنے فوائد میں روایت کی کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا۔ آپ نے اس کا نام دریافت فرمایا کہنے لگا میر نام جمرہ (اخغر) ہے فرمایا کس کا پیٹا؟ کہا ابن شہاب۔ (آتش پارہ) کا فرمایا کن لوگوں میں سے ہے کہا حرقد (سوژش) میں سے فرمایا تیر اوطن کہا ہے کہا، حرہ (پیش) فرمایا اس کے کس مقام پر کہا ذات لطی (شعلہ دار) میں فرمایا، اپنے گھر والوں کی خبر لے سب جل گئے لوٹ کر گھر آیا تو سارا کنبہ جلا پایا۔

ابوالشخ نے کتاب العصۃ میں روایت کیا ہے کہ جب مصر فتح ہوا تو ایک روز اہل مصر نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ اے امیر ہمارے دریائے نیل کی ایک رسم ہے جب تک اس کو ادا نہ کیا جائے دریا جاری نہیں رہتا۔ انہوں نے دریافت کیا، کیا، اس مہینے کی گیارہ تاریخ کو ہم ایک کنواری لڑکی کو اس کے والدین سے لے کر نمہہ لباس اور نصیس زیور سے سجا کر دریائے نیل میں ڈالتے ہیں حضرت عمرو بن حاص نے کہا کہ اسلام میں ہر گز ایسا نہیں ہو سکتا اور اسلام پرانی واہیات رسول کو مٹاتا ہے پس وہ رسم موقوف رکھی گئی اور دریا کی روائی کم ہوتی گئی یہاں تک کہ لوگوں نے وہاں سے چلے جانے کا قصد کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عمرو بن عاص نے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تمام واقعہ

لکھ کر بھیجا۔ آپ نے جواب میں تحریر فرمایا، تم نے ٹھیک کیا بیشک اسلام ایسی رسوم کو مٹاتا ہے میرے اس خط میں ایک رقعہ ہے اس کو دریائے نیل میں ڈال دینا عمر و بن عاص کے پاس جب امیر المؤمنین کا خط پہنچا اور انہوں نے وہ رقعہ اس خط میں سے نکالتا تو اس میں لکھا تھا:

از جانب بندہ خدا عمر امیر المؤمنین بسوئے نیل مصر بعد ازاحمد و صلواتہ آئکہ: اگر تو خود جاری ہے تو نہ جاری ہو اور اگر اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا ہے تو میں اللہ واحد قہار سے درخواست کرتا ہوں کہ تجھے جاری فرمادے۔

عمرو بن عاص نے یہ رقعہ دریائے نیل میں ڈالا ایک شب میں سولہ سو گز پانی بڑھ گیا اور بھیشنٹ چڑھانے کی رسم مصر سے بالکل موقوف ہو گئی

حضرت امین عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ نو یا گیارہ لقوں سے زیادہ طعام ملاحظہ نہ فرماتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیص مبارک میں دو شانوں کے درمیان چار پونڈ لگے تھے۔ یہ بھی روایت ہے کہ شام کے ممالک جب فتح ہوئے اور آپ نے ان ممالک کو اپنے قدوم میمتازوم سے سرفراز فرمایا اور وہاں کے امراء و عظماء آپ کے استقبال کے لئے آئے۔ اس موقع پر آپ اپنے شتر پر سوار تھا آپ کے خواص و خدام نے عرض کیا اے امیر المؤمنین! شام کے اکابر و اشراف حضور کی ملاقات کے لئے آرہے ہیں مناسب ہو گا کہ حضور گھوڑے پر سوار ہوں تاکہ آپ کی شوکت و ہبیت ان کے دلوں میں جاگزین ہو فرمایا اس خیال میں نہ رہیے کام بنا نے والا اور ہی ہے۔ سبحان اللہ۔

ایک مرتبہ قیصر روم کا قاصد مدینہ طیبہ میں آیا اور امیر المؤمنین کو تلاش کرتا تھا تاکہ بادشاہ کا پیام آپ کی خدمت میں عرض کرے لوگوں نے بتایا کہ امیر المؤمنین مسجد میں ہیں۔ مسجد میں آیا دیکھا کہ ایک صاحب موبائل پونڈ زدہ کپڑے پہنچے ایک اینٹ پر سر رکھ لیئے ہیں۔ یہ دیکھ کر باہر آیا اور لوگوں سے امیر المؤمنین کا پتہ دریافت کرنے لگا کہا گیا مسجد میں

تشریف فرمائیں، کہنے لگا مسجد میں تو سوائے ایک دلق پوش کے کوئی نہیں۔ صحابہ نے کہا ہی
دلق پوش ہمارا امیر خلیفہ ہے

برور میکدہ رندان قلندر باشد

کہ ستانند و دہندا افسر شاہنشاہی

خشت زیر سرو بر تارک ہفت اختر پائے

وست قدرت گنر و منصب صاحب جاہی

قیصر کا قاصد پھر مسجد میں آیا اور غور سے امیر المؤمنین کے چہرہ مبارک کو دیکھنے لگا دل
میں محبت و بہیت پیدا ہوئی اور آپ کی حقانیت کا پرتواس کے دل میں جلوہ گروا۔

مہرو بہیت ہست ضدیک دگر ایں دو ضدر راجح دید اندر جگہ

گفت با خود من شہاں رادیہ ام گرد سلطان راہمہ گردیدہ ام

از شہانم بہیت و تر سے نبوہ بہیت ایں مرد ہوشم در زبود

رفتہ ام در بیشه دشیر و پلٹک روئے من زایشاں گنرو اندر نگ

ہچھو شیراں دم کہ باشد کا رزار بس شدم اندر مصاف کا رزار

ول قوی تربودہ ام از دیگراں بسکه خوردم بس زدم زشم گراں

من ہفت اندام لرزائیں ایں چنیں بے سلاح ایں مرد خفتہ بر زمیں

بہیت حق ست ایں از خلق نیست

بہیت ایں مرد صاحب دلق نیست

حضرت عاصم بن ربعہ فرماتے ہیں کہ میں امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت
میں تھا آپ جب بعزم حجج مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے آمد و رفت میں امراء خلفاء کی طرح
آپ کے لئے خیرہ نصب نہ کیا گیا، راہ میں جہاں قیام فرماتے اپنے کپڑے اور بستر کسی
درخت پر ڈال کر سایہ کر لیتے۔ ایک روز برسر مبنزیر موعظت فرمائے تھے مہر کا مسئلہ زیر بحث
آیا آپ نے فرمایا مہر گراں نہ کئے جائیں اور چالیس او قیہ سے مہر زیادہ مقرر نہ کیا جائے
ایک او قیہ چالیس در بھم کا ہوتا ہے کیونکہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ازوں کا مہر

چالیس او قیہ سے زیادہ نہ فرمایا لہذا جو کوئی آج کی تاریخ سے اس سے زیادہ مقرر کرے گا
وہ زیادتی بیت المال میں داخل کر لی جائے گی۔ ایک ضعیفہ عورتوں کی صفات سے اٹھی اور اس
نے عرض کیا اے امیر المؤمنین ایسا کہنا آپ کے منصب عالی کے لاکن نہیں مہر اللہ تعالیٰ نے
عورت کا حق کیا ہے وہ اس کے لیے حلال ہے اس کا کوئی جزو اس سے کس طرح لیا جاسکتا
ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتنی تم احداهن قطار اولاً تا خذو منه شیئاً آپ لفوارے
در بغی دادا الصاف دی اور فرمایا امسراۃ اصحابت ورجل اخطاع عورت ٹھیک پہنچی اور مرد نے
خطا کی پھر منبر پر اعلان فرمایا کہ عورت صحیح کہتی ہے میری غلطی تھی جو چاہو مہر مقرر کرو اور فرمایا
اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي كُلَّ انسَانٍ افْقَهَ مِنِّي عُمْرَ يَارَبِّي مَغْفِرَةٌ فَرِمَّحْ عُمْرَ سَزِيَّا
دانہ ہے۔ سبحان اللہ ذہبے عدل وداد خی بجز و اکسار۔

امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت

امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ ماہ جمادی الآخری ۱۴ھ میں مند آرائے سریر
خلافت ہوئے دس سال چند ماہ امور خلافت کو انجام دیا اس دس سال خلافت کے ایام نے
سلطین عالم کو متغیر کر دیا ہے زمین عدل و داد سے بھر گئی دنیا میں راستی و دیانت داری کا سکہ
رانج ہوا۔ مخلوق خدا کے دلوں میں حق پرستی و پاکبازی کا جذبہ پیدا ہوا۔ اسلام کے برکات
سے عالم فیض یاب ہوا۔ فتوحات اس کثرت سے ہوئیں کہ آج تک ملک و سلطنت کے والی
سپاہ و شکر کے مالک حیرت میں ہیں۔ آپ کے لشکروں نے جس طرف قدم اٹھایا تھا نظر
قدوم چوتھی گئی۔ بڑے بڑے فریدوں اور فوٹیراں کے تاج قدموں میں روندے گئے
ممالک و بلاد اس کثرت سے قبضہ میں آئے کہ ان کی فہرست لکھی جائے تو صفحے کے صفحہ بھر
جائیں رعب و بہادری کا یہ عالم تھا کہ بہادروں کے زہرے نام من کر پائی ہوتے تھے۔ جنگ
جو یاں صاحب ہنر کا پتے اور تھراتے تھے تاہر سلطنتیں خوف سے لرزتی تھیں۔ بایس ہمہ فرد
اقبال و رعب و سطوت آپ کی درویشانہ زندگی میں کوئی فرق نہ آیا رات دن خوف خدا میں
روتے روتے رخاروں پر نشان پڑ گئے تھے آپ ہی کے عہد میں سنہ بھری مقرر ہوا۔ آپ

ہی نے دفتر دیوان کی بنیاد ڈالی۔ آپ ہی نے بیت المال بنایا۔ آپ ہی نے تمام بلا دوا مصاریں تراویح کی جماعتیں قائم فرمائیں آپ ہی نے شب کے پھرہ دار مقرر کئے جورات کو پھرہ دیتے تھے یہ سب آپ کی خصوصیات ہیں۔ آپ سے پہلے ان میں سے کوئی بات نہ تھی۔

ابن عساکر نے اسماعیل بن زیاد سے روایت کی کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ اکبریم مسجدوں پر گزرے جن پر قدیمیں روش تھیں انہیں دیکھ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر کی قبر کو روشن فرمائے جنہوں نے ہماری مسجدوں کو منور کر دیا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسجد بنوی کی توسعی کی آپ ہی نے یہود کو حجاز سے نکالا۔ آپ کے کرامات اور فضائل بہت زیادہ ہیں اور آپ کی شان میں بہت احادیث وارد ہیں یہ ۲۳ھ میں آپ ابو لولو جوی کے ہاتھ سے مسجد میں شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخم کھانے کے بعد آپ نے فرمایا کان امو اللہ قدراً مقدوراً اور فرمایا اللہ کی تعریف جس نے میری موت کی مدعی اسلام کے ہاتھ پر نہ رکھی۔ بعد وفات شریف باجاڑت حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے محبوب علیہ اصلوۃ والسلام کے قریب روضہ قدسیہ کے اندر پہلوئے صدیز میں مدفن ہوئے اور آپ نے امر خلافت کو شوریٰ پر چھوڑا۔ وفات شریف کے وقت آپ کی عمر تریس سال کی تھی۔ آپ کی مہر کا نقش تھا، کفی بالموت واعظا۔

خلیفہ سوم

سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ

آپ کا نسب نامہ عثمان بن عفان ابن ابی العاص ابن امیہ ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصیٰ بن کلاب ابن مرحہ ابن کعب ابن لویٰ ابن غالب۔ آپ کی ولادت عام فلی سے چھٹے سال ہوئی۔ آپ قدیم اسلام ہیں۔ اور آپ کو اسلام کی دعوت حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی۔ آپ نے دونوں ہجرتیں فرمائیں پہلے جہش کی طرف دوسرے مدینہ طیبہ کی طرف۔ آپ کے نکاح میں حضور انور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحزادیاں آئیں۔ پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ان کے ساتھ نبوت سے قبل نکاح ہوا اور انہوں نے غزوہ بدر کے زمانے میں وفات پائی اور انہیں کی تیار داہی کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باجاڑت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں رہ گئے۔ حضور نے ان کا سہم واجر بحال رکھا اور اسی وجہ سے وہ بدریوں میں شمار کئے جاتے ہیں۔ جس روز بدر میں مسلمانوں کو فتح پانے کی خبر مدینہ طیبہ میں پہنچی اسی دن حضرت رقیہ کو دفن کیا گیا تھا۔ اس کے بعد حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صاحزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ کے نکاح میں دیا جن کی وفات ۹ھ میں ہوئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوادنیا میں کوئی شخص ایسا نظر نہیں آتا جس کے نکاح میں کسی نبی کی دو صاحزادیاں آئی ہوں اسی لئے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ آپ ساقین اولین اور اول مہاجرین عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اور ان صحابہ میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جمع قرآن کی عزت عطا فرمائی۔

حضرت مولیٰ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اکبریم سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ شخص ہے جس کو ملاء عالیٰ میں ذوالنورین پکارا

جاتا ہے۔ آپ کی والدہ اردی بنت کریمہ ابن ربعہ ابن خبیب بن عبد شمس ہیں۔ اور آپ کی نانی ام حکیم بیضاء بنت المطلب ابن ہاشم ہیں جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے والد ماجد کی توانہ یعنی ان کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن ہیں۔ حضرت عثمان غنی کی والدہ حضور کی پھوپھی زاد بہن ہیں۔ آپ بہت حسین و حمیل خور و تھے۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ان کے بچا حکیم ابن ابی العاص ابن امیہ نے کپڑا کر باندھ دیا اور کہا کہ تم اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کرتے ہو۔ بخدا میں تم کونہ چھوڑوں گا جب تک تم اس دین کو نہ چھوڑو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم میں اس دین کو بھی نہ چھوڑوں گا۔ اور اس سے بھی جدا نہ ہوں گا۔ حکیم نے آپ کا یزبر دست و استقلال دیکھ کر چھوڑ دیا۔ وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت میں حاضر ہوتے تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لباس مبارک کو خوب درست فرماتے اور ارشاد فرماتے میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے ملائکہ شرما تے ہیں۔

ترمذی نے عبدالرحمٰن بن ثابت سے روایت کی وہ کہتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تغیب فرمائے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سواونٹ مع بار راہ خدا میں پیش کروں گا حضور نے پھر لوگوں کو تغیب فرمائی پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں دوسراونٹ مع سامان حاضر کروں گا پھر حضور نے تغیب فرمائی۔

پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تین سواونٹ مع ان کے تمام اسباب کے ساتھ پیش خدمت کروں گا اب حضور علیہ اصلوٰۃ والسلام نے منبر سے نزول فرمایا اور یہ فرمایا کہ اس کے بعد عثمان پر نہیں جو کچھ کرتے مراد یہ تھی کہ یہ عمل خیر ایسا اعلیٰ اور اتنا مقبول ہے کہ اب اور نوافل نہ کریں۔ جب بھی یہ ان کے مدارج علیا کے لئے کافی ہے اور اس مقبولیت کے بعد اب انہیں کوئی اندیشہ مصروف نہیں ہے۔

ان کلمات مبارکہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور بارگاہ رسالت

میں ان کی مقبولیت کا اندازہ ہوتا ہے بیعت رضوان کے وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ حضور علیہ اصلوٰۃ والسلام نے انہیں کمک مکرمہ بھیجا تھا۔ بیعت کے وقت یہ فرمایا کہ عثمان اللہ اور رسول کے کام میں ہیں۔ اپنے ہی ایک دست مبارک کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دست اقدس میں لے لیا بیعت کی یہ شان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امتیاز و قرب خاص کا اظہار کرتی ہے آپ کے فضائل میں بکثرت احادیث وارد ہیں۔

امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے آخری عہد میں ایک جماعت مقرر فرمایا تھی جس کے ارکان یہ حفرات تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک حضرت علی مرتضی، حضرت علیہ حضرت ذیہر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد اور غایفہ کا انتخاب شوریٰ پر چھوڑا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان غنی سے خلوت میں کہا کہ اگر میں آپ سے بیعت نہ کروں تو آپ کی رائے کس کے لئے ہے فرمایا، حضرت علی کے لئے۔ اسی طرح حضرت علی مرتضی سے دریافت کیا آپ نے حضرت عثمان غنی کا نام لیا۔ پھر اسی طرح حضرت ذیہر سے پوچھا۔ انہوں نے فرمایا علی یا عثمان، پھر سعد سے کہا کہ تم تو خلاف چاہتے نہیں اب بتاؤ رائے کس کے حق میں ہے۔ انہوں نے حضرت عثمان کا نام لیا۔ پھر عبد الرحمن نے اعیان سے مٹھوڑا لہا۔ کفرت رائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عنہم۔ جمیں کے حق میں ہوئی اور آپ بالاتفاق مسلمین خلیفہ ہوئے۔ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کے دفن سے تین روز بعد آپ کے دست حق پر بیعت کی گئی۔

آپ کے مدد مبارک میں رے اور روم کے کئی قلعے اور سا بور اور ارجان اور دار بجر و اور افریقہ اور انڈس، قبرص، جور اور خراسان کے بلاد کشیر اور نیشاپور اور طوس اور سرخ اور مردا اور نہن قفتح ہوئے۔

لَاہو میں آپ نے مسجد حرام (کعبہ مقدسہ) کی توسعہ فرمائی اور ۲۹ھ میں مسجد مدینہ طیبہ کی توسعہ کی اور جارہ منقوشه سے بنایا پتھر کے ستون قائم کئے۔ سال کی چھت بنائی طول (۱۶۰) گز اور عرض (۱۵۰) گز کیا۔ بارہ سال امور خلافت کا سرانجام فرمایا اور ۳۵ھ میں

شہادت پائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

جب باغیوں نے آپ کے محل کو گھیر لیا اس وقت آپ سے مقابلہ کرنے کے لئے عرض کیا گیا اور قوت آپ کی زیادتی مگر آپ نے قول نہ فرمایا عرض کیا گیا کہ مکہ مکہ یا اور کسی مقام پر تشریف لے جائیں یہ بھی منظور نہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چھوٹ نے کی تاب نہیں رکھتا جس روز سے آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی اس روز سے دم آخوند اپناداہنا تھا انی شرم گاہ کوئہ لگایا۔ کیونکہ یہ ہاتھ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں دیا گیا تھا۔ روز اسلام سے روزوفات تک کوئی جمعہ ایسا نہ گزرا کہ آپ نے کوئی غلام آزاد نہ کیا ہوا اگر کبھی جمعہ کو آپ کے پاس کوئی بردہ نہ ہو تو بعد جمعہ کے آزاد کر دیا۔

آپ کی شہادت

آپ کی شہادت ایام تشریق میں ہوئی اور آپ شبہ کی شب میں مغرب و عشاء کے درمیان بیچع شریف میں مدفن ہوئے آپ کی عمر بیاسی سال کی ہوئی۔ آپ کے جنازہ کی نماز حضرت زیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور انہوں نے آپ کو دفن کیا۔ اور یہی آپ کی وصیت تھی۔

ابن عساکر بیزید بن جبیب نے نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں مجھے خبر پہنچی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر یورش کرنے والوں میں سے اکثر لوگ مجنوں دیوانہ ہو گئے۔ حضرت حدیفہ فرماتے ہیں کہ پہلا فتنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید کیا جانا ہے اور آخوند دجال کا خروج۔ غرض صحابہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے ایک عجیب بیجان پیدا کر دیا۔ اور وہ اس سے خائف ہو گئے اور سمجھنے لگے کہ اب فتوں کا دروازہ کھلا اور دین میں رخنے پیدا ہونے شروع ہوئے۔ حضرت سمورہ فرماتے ہیں کہ اسلام ایک محکم قلعہ میں محفوظ تھا۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسلام میں پہلا رختہ ہے اور ایسا رختہ جس کا انسداد قیامت تک نہ ہوگا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے متقول ہے کہ حضرت عثمان

غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت حضرت علی مرتضی وہاں تشریف نہیں رکھتے تھے۔ جنگ جمل میں حضرت علی مرتضی نے فرمایا رب میں تیرے حضور میں خون عثمان سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے روز میرا طاڑ عقل پرواہ کر گیا تھا۔ لوگ میرے پاس بیعت کو آئے تو میں نے کہا کہ بخدا میں ایسی قوم کی بیعت کرنے سے شرما تا ہوں جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ سے دن سے پہلے بیعت میں مصروف ہوں اُوگ پھر گئے۔ لوٹ کر آئے پھر انہوں نے مجھ سے بیعت کی درخواست کی تو میں نے کہا یا اس سے خائف ہوں جو حضرت عثمان پر پیش آیا۔ پھر ارادہ الہی غالب آیا اور مجھے رب میں اس سے خائف ہوں جو حضرت عثمان پر پیش آیا۔ پھر ارادہ الہی غالب آیا اور مجھے بیعت لینا پڑی۔ لوگوں نے جب مجھ سے کہایا امیر المؤمنین تو یہ کلمہ سن کر میرے دل میں چوتھ لگی اس وقت حضرت مولا علی مرتضی کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آئے اور اپنی نسبت یہ کلمہ سننا باعث ملال خاطر ہوا۔ اس سے اس محبت کا پتہ چلتا ہے جو حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے۔ اور حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے اس ہنگامے کو روکنے کے لئے پوری کوشش فرمائی اور اپنے دونوں صاحبزادوں سیدنا حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دروازے پر تلواریں لے کر حفاظت کے لئے بھیج دیا تھا لیکن جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا اور جس کی خبریں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھیں اس کو کون رفع کر سکتا ہے۔

خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ

امیر المؤمنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ آپ کا نام علی، کنیت ابو الحسن ابو تراب ہے۔ آپ کے والد حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ہیں۔ آپ نعمروں میں سب سے پہلے اسلام لائے۔ اسلام لانے کے وقت آپ کی عمر شریف کیا تھی اس میں چند اقوال ہیں۔ ایک قول میں آپ کی عمر پندرہ سال کی ایک میں رسول کی ایک میں آٹھ کی ایک میں دس کی، اگرچہ عمر کے باب میں چند قول ہیں مگر اس قدیم ترین ہے کہ ابتدائے عمر میں بلونگ کے متصل ہی آپ دولت ایمان سے مشرف ہوئے۔ آپ نے کبھی بت پرستی کے ساتھ ملوث نہ ہوئے آپ عشرہ مشیرہ میں سے ہیں جن کے لئے جنت کا وعدہ دیا گیا اور علاوہ چچا زاد ہونے کے آپ کو حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عزت مواحات بھی ہے۔ اور سیدہ نساء العالمین خاتون جنت حضرت بتوں زہرہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ کا عقد ہوا۔ آپ ساقین اولین اور علماء ربانیین میں سے ہیں۔ جس طرح شجاعت باللت میں آپ کا نام نامی شہرہ عالم ہے عرب و عجم برو بحر میں آپ کے زور و قوت کے سکھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کی بیت و بد بہ سے آج بھی جوان مردان شیر دل کانپ جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ کا زہرہ ریاضت اطراف و اکناف عالم میں وظیفہ خاص و عام ہے۔ کروڑوں اولیاء آپ کے سینہ نور گنجینہ سے مستفیض ہیں۔ اور آپ کے ارشاد و ہدایت نے زمین کو خدا پرستوں کی طاعت و ریاضت سے بھر دیا ہے۔ خوش بیان فصحاء اور معروف خطباء میں آپ بلند پایہ ہیں جامعین قرآن پاک میں آپ کا نام نامی نورانی حرفوں کے ساتھ چلکتا ہے۔

آپ بنی هاشم میں پہلے خلیفہ ہیں۔ اور سبطین کریمین حسین جمیلین سعیدین شہیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے والد ماجد ہیں۔ سادات کرام اور اولاد رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کا سلسلہ پروردگار عالم نے آپ سے جاری فرمایا۔ آپ توک کے سواتمام مثاہد میں حاضر ہوئے۔ جنگ توک کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مدینہ پر خلیفہ بنایا تھا اور ارشاد فرمایا تھا کہ تمہیں ہماری بارگاہ میں وہ مرتبہ حاصل ہے جو حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں حضرت ہارون کو (علیہ الصلوٰۃ والسلام) عطا فرمایا

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مقاموں میں آپ کو لووا (جهنم) عطا فرمایا خصوصاً روز خنیبر اور حضور نے خردی کہ ان کے ہاتھ پر فتح ہوگی۔ آپ نے اس روز قلعہ خنیبر کا دروازہ اپنی پشت پر رکھا اور اس پر مسلمانوں نے چڑھ کر قلعہ کو فتح کیا اس کے بعد لوگوں نے اسے کھینچتا چاہا تو چالیس آدمیوں سے کم اس کو نہ اٹھا سکے۔ جنگوں میں آپ کے کارناٹے بہت ہیں۔

آپ کو اپنے ناموں میں ابو تراب بہت پیارا معلوم ہوتا ہے اور اس نام سے آپ بہت خوش ہوتے تھے اس کا سبب یہ تھا کہ ایک روز آپ مسجد شریف کی دیوار کے پاس لیٹے ہوئے تھے۔ پشت مبارک کو مٹی لگ گئی تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شریف لائے اور آپ کی پشت مبارک سے مٹی جھاڑ کر فرمایا اجلس ابا تراب یہ حضور کا عطا فرمایا ہوا خطاب آپ کو ہر نام سے پیارا معلوم ہوتا تھا اور آپ اس نام سے سلطان کو نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف و کرم کے مزے لیتے تھے۔

آپ کے فضائل و حمد بہت زیادہ ہیں۔ حضرت سعد ابن وقاص سے مردی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ توک کے موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مدینہ طیبہ میں اہل بیت کی حفاظت کے لئے چھوڑا۔ حضرت علی مرتضیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں خلیفہ بناتے ہیں حضور نے فرمایا کیا تم رضی ہیں ہو کر تمہیں میرے دربار میں وہ مرتبہ حاصل ہو جو حضرت ہارون کو دربار حضرت موسیٰ میں تھی۔ علیہ الصلوٰۃ والسلام بجز اس بات کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔

حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روز خبر فرمایا کہ میں کل جنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ فتح فرمائے گا۔ اور وہ اسٹر ورسول کو محبوب رکھتا ہے اور اللہ ورسول اس کو محبوب رکھتے ہیں۔ اس مردہ جانفرزا نے صحابہ کرام کو تمام شبِ امید کی ساعتیں شمار کرنے میں مجھے شہر تک نہ ہوا۔ صحابہ دلوں کو رات کا نئی مشکل ہو گئی اور مجاہدین کی نیزدیں اڑ گئیں۔ ہر دل آرزو مند حق کا اس نعمتِ عظیمی کی بری سے بہرہ مندا ہوا اور ہر آنکھ فتنہ تھی کہ صحیح کی روشنی میں سلطان دارین فتح کا جنڈا اس کو عطا فرماتے ہیں۔ صحیح ہوتے ہی شب بیدار تنائی امیدوں کے ذخیرے لئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ادب کے ساتھ دیکھنے لگے کہ کریم ذرہ پرور کا دستِ رحمت کس سعادت مند کو سرفراز فرماتا ہے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک کی جنپش پر ایمان بھری اُکا ہیں قربان ہو رہی تھیں کہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علی ابن ابی طالب علی ابن طالب کہاں ہیں۔ عرض کیا گیا وہ بیمار ہیں ان کی آنکھوں میں آشوب ہے۔ بلانے کا حکم دیا گیا اور علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ حاضر ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وہن مبارک کے حیات بخش لعاب سے ان کی چشم پیار کا علاج فرمایا اور برکت کی دعا کی۔ دعا کرنا تھا کہ نہ درد باقی رہا نہ کھنک نہ سرخی نہ پُک آن کی آن میں ایسا آرام ہوا کہ گویا کبھی پیار نہ ہوئے اس کے بعد ان کو جنڈا عطا فرمایا۔

ترمذی ونسائی وابن ماجہ نے جبشی بن جہادہ سے روایت کی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی منی و انس من علی (علی مجھے ہے اور میں علی ہے) اس سے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کا کمال قرب بارگاہ رسالت سے ظاہر ہوتا ہے امام مسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ اس کی قسم جس نے دانہ کو پھاڑا اور اس کو روپیدگی عنایت کی۔ اور جانوں کو پیدا کیا بیٹک بھے نبی ای صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے سے ایمان دار مجبت کریں گے اور منافق بغرض رکھیں گے۔ ترمذی میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک علی مرتضیٰ سے بعض رکھنا منافق کی علامت تھی اسی سے ہم منافق کو پیچان

یلتے تھے حاکم نے حضرت مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سے روایت کی فرماتے ہیں مجھے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میں کی طرف قاضی بناؤ کر بھیجا، میں نے عرض کیا حضور میں کم عمر ہوں قضا جانتا نہیں۔ کام کس طرح انجام دے سکوں گا۔ حضور نے دستِ مبارک میرے سینہ پر مار کر دعا فرمائی۔ پروردگار کی قسم معاملہ کے فیصل کرنے میں مجھے شب تک نہ ہوا۔ صحابہ کبار حضرت امیر المؤمنین علی مرتضیٰ کو تھی جانتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فیض ہے کہ حضرت امیر المؤمنین کے سینہ میں دستِ مبارک لگایا اور وہ علم قضا میں کمیل اور اقرن میں فائت ہو گئے۔ جس کے ہاتھ لگانے سے علوم کے گنجینے بن جائیں اس کے علوم کا کوئی کیا بیان کر سکتا ہے۔ ابن عباس سے روایت کی۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے حق میں بہت سی آیتیں نازل ہوئیں۔ طبرانی و حاکم نے حضرت ابن سعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کو دیکھنا عبادت ہے۔ ابو یعلی و بزار نے حضرت سعد بن ابی و قاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا، جس نے علی کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی۔ بزار اور ابو یعلی اور حاکم نے حضرت امیر المؤمنین علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سے روایت کی آپ نے فرمایا کہ مجھ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں حضرت عیسیٰ علیہ نبیتاً و علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ایک مناسبت ہے ان سے یہود نے یہاں تک بغض کیا کہ ان کی والدہ ماجدہ پر تہمت لگائی۔ نصاریٰ مجبت میں ایسے حد سے گزرے کہ ان کی خدائی کے مقعدہ ہو گئے ہوشیار ہو جاؤ میرے حق میں بھی دو گروہ ہلاک ہوں گے ایک مجبت مفترط جو مجھے میرے مرتبہ سے بڑھائے اور حد سے تجاوز کرے اور دوسرا مبغض جو حد اوت میں مجھ پر بہتان باندھے حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ راضی و خارجی دونوں گمراہ ہیں اور ہلاکت کی راہ چلتے ہیں۔ طریق تویم اور صراط مستقیم پر ہلستہ ہیں جو مجبت بھی رکھتے ہیں اور حد سے تجاوز رکھنی نہیں کرتے۔ والحمد لله رب العالمین۔

بیعت و شہادت

ابن سعد کے قول پر حضرت امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دوسرے روز امیر المؤمنین علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے دست مبارک پر مدینہ طیبہ میں تمام صحابہ نے جو وہاں موجود تھے بیعت کی۔ ۳۷ھ میں جنگ جمل کا واقعہ پیش آیا۔ اور صفر ۳۸ھ میں جنگ صفين ہوئی جو ایک صلح پر ختم ہوئی اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے کوفہ کی طرف مراجعت فرمائی اور اس وقت خوارج نے سرکشی شروع کی اور لشکر جمع کر کے چڑھائی کی۔ حضرت امیر المؤمنین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے مقابلہ کے لئے بھیجا۔ آپ ان پر غالب آئے۔ اور ان میں سے قوم کیشرواپس ہوئی اور ایک قوم ثابت رہی اور انہوں نے نہروان کی طرف جا کر راہ زندگی شروع کی۔ حضرت امیر المؤمنین نے ایک قتنڈ کی مدافعت کے لئے ان کی طرف روانہ ہوئے۔ ۳۸ھ میں آپ نے ان کو نہروان میں قتل کیا۔ انہی میں ذوی الشیکوہی قتل کیا جس کے خروج کی خبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ خوارج میں سے ایک نامزاد عبد الحمن بن ملجم مرادی تھا۔ اس نے برک بن عبد اللہ تھی خارجی اور عمر و بن کبیر تھی خارجی کو مکہ کرہہ میں جمع کر کے حضرت امیر المؤمنین علی مرتضیٰ اور معاویہ بن ابی سفیان اور حضرت عمر و بن عاصی کے قتل کا معابدہ کیا اور حضرت امیر المؤمنین علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے قتل کے لئے ابن ملجم ہوا اور ایک تاریخ میعنی کرلی گئی۔ متدرک میں سدی سے منقول ہے کہ عبد الرحمن بن ملجم ایک خارجی عورت قطام نامی پر عاشق تھا۔ اس ناشاد کی شادی کا ہمراہ تین ہزار درہم اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کو قتل کرنا قرار پایا۔ چنانچہ فرزدق شاعر نے کہا

فلم ارمهر اساقۃ ذوسماحة
کمھر قطام بین غیر معجم
ثلثة الاف و عبد و قینه
وضرب على بالحسام المصمم
فلامھر اعلى من على وان غالا
ولا فتك الا دون فتك ابن ملجم
اب ابن ملجم کوفہ پہنچا اور وہاں سے خوارج سے ملا اور انہیں در پرده اپنے ناپک ارادہ
کی اطلاع دی۔ خوارج اس کے ساتھ متفق ہوئے۔ شب جمعہ ۱۴ رمضان المبارک ۳۸ھ کو

امیر المؤمنین حضرت مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سحر کے وقت بیدار ہوئے۔ اسی رمضان آپ کا دستور یہ تھا کہ ایک شب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ ایک شب حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اظفار فرماتے اور تین لقوں سے زیادہ تناول نہ فرماتے تھے کہ مجھے یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کے وقت میرا پیٹ خالی ہو۔

آج کی شب تو یہ حالت رہی کہ بار بار مکان سے باہر تشریف لائے اور آسان کی طرف نظر فرماتے اور فرماتے کہ بخدا مجھے کوئی خبر جھوٹی دی نہیں دی گئی یہ وہی رات ہے جس کا وعدہ دیا گیا ہے صبح کو جب بیدار ہوئے تو اپنے فرزند امیر المؤمنین امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آج شب میں نے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے آپ کی امت سے آرام نہ پایا۔ فرمایا انہیں دعا کرو۔ میں نے دعا کی یا رب مجھے ان کے عوض ان سے بہتر عطا فرماد۔ اور انہیں میری بجد ان کے حق میں جزا دے۔

نفیت حضرات کو اس بارگاہ عالیٰ میں قرب و نزد کیتی اور اختصاص حاصل ہے ان کے مرابت کیسے بلند و بالا ہوں گے اسی سے آپ اہل بیت کرام کے فضائل کا اندازہ کیجئے ان حضرات کی شان میں بہت آئیں اور حدیثیں وارد ہوئیں۔

انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطہر کم تطهیراً
ترجمہ:- "اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے رجس (ناپاکی) دور کرے۔ اہل بیت رسول اور
تمہیں پاک کرے، خوب پاک"

اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ یہ آیت حضرت علی مرتضیٰ، حضرت سیدۃ النساء فاطمہ زہراء، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم السلام جمعین کے حق میں نازل فرمائی اور قریب نہ اس کا یہ ہے کہ عنکم دراس کے بعد کی خیریں مذکور ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حق میں نازل ہوئی کیونکہ اس کے بعد ہی ارشاد ہوا۔ واذ کرن مایتعلی فی بیوتکن اور یہ قول حضرت ابن عباس کی طرف منسوب ہے اس لئے ان کے غلام حضرت عکرمہ بازار میں اس کی مذکورتے ہیں ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد خود رسکار دولت مدارکی ذات عالیٰ صفات ہے، تھا دوسرے مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیت حضور کی ازواج مطہرات کے حق میں نازل ہے علاوہ اس کے کہ اس پر آیت واذ کرن مایتعلی فی بیوتکن دلالت کرتی ہے یہ بھی اس کی دلیل ہے کہ یہ دولت سرانے اقدس ازواج مطہرات ہی کا مسکن تھا۔ حضور کے اہل بیت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نسب و قرابت کے وہ لوگ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ ایک جماعت نے اسی پر اعتماد کیا اور اسی کو ترجیح دی اور ان کیشرنے بھی اسی کی تاکید کی ہے۔

احادیث پر جب نظر کی جاتی ہے تو مفسرین کی دونوں جماعتوں کو ان سے تائید پہنچتی ہے۔ امام احمد نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ یہ آیت پنجتن پاک کی شان میں نازل ہوئی۔ پنجتن پاک سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی و حضرت فاطمہ و حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ہیں۔ (صلوٰۃ اللہ تعالیٰ علی حبیبہ و علیہم السلام)

اہل بیت کرام

حضرات کرام خلفائے راشدین کا ذکر کیا گیا۔ ان کی ذوات مقدسہ مقریبین بارگاہ رسالت میں سب سے اعلیٰ مرتبہ رکھتی ہیں اور حق یہ ہے کہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جس کسی کو بھی ادنیٰ سی محبت و نسبت ہے اس کی فضیلت اندازے اور قیاس سے زیادہ ہے۔ اس آقائے نامدار سرکار دولت مدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی نسبت کوئی شخص ان کے بلده طاہرہ اور شہر پاک میں سکونت رکھتا ہواں درجہ کی ہے کہ حدیث شریف میں وارد ہوا:-

من اخاف اهل المدینة ظلماً اخافه اللہ وعلیه لعنة اللہ والملائكة
والناس اجمعین۔

ترجمہ:- "جس نے اہل مدینہ کو ظلمانہ ڈرایا، اللہ تعالیٰ اس پر خوف ڈالے گا اور اس پر اللہ کی اور ملائکہ اور سب لوگوں کی لعنت"

(رواہ قاضی ابو یعلیٰ) ترمذی کی حدیث میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔
قال صلی اللہ علیہ وسلم من عش العرب لویند خل فی شفاعتی و لم
تنلہ مودتی

ترجمہ:- حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے عربوں سے بغض رکھا
میری شفاعت میں داخل نہ ہوگا اور اس کو میری مودت میرشہ آئے گی۔

اتی نسبت ایک شخص عرب کا باشندہ ہواں کو مرتبہ پر پہنچادیتی ہے کہ اس سے خیانت کرنے والا حضور کی شفاعت و مودت سے محروم ہو جاتا ہے تو جن بر گزیدہ نقوں اور خوش

اسی مضمون کی حدیث مرفوع ابن جریر نے روایت کی طبرانی میں بھی اس کی تخریج کی۔ مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور انور علیہ الصلوٰۃ والتسیمات نے ان حضرات کو اپنی گلیم مبارک میں لے کر یہ آیت تلاوت فرمائی یہ بھی بصحت ثابت ہوا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو تخت گلیم اقدس لے کر یہ دعا فرمائی۔

اللهم هولاء اهل بیتی و خامتی اذهب عنہم الرجس و طهورہم تطہیرا
ترجمہ:- ”یارب یہ میرے اہل بیت اور میرے مخصوصین ہیں ان سے رجس و ناپا کی دور فرما اور انہیں پاک کر دے اور خوب پاک۔“

یہ دعا سن کرام المومنین حضرت ام سلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا وانا منہم میں ان کے ساتھ ہوں۔ فرمایا اللہ علیٰ خیرو (تم بہتری پر ہو) ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ حضور نے حضرت ام المومنین کے جواب میں فرمایا (میٹک) اور ان کو کسا (گلیم) میں داخل کر لیا ایک روایت میں ہے کہ حضرت واہلہ نے عرض کیا کہ میرے حق میں بھی دعا ہو یا رسول اللہ علیہ وسلم حضور نے ان کے لئے بھی دعا فرمائی۔ ایک صحیح روایت میں ہے واہلہ نے عرض کیا وانا من اہلک میں بھی آپ کے اہل میں سے ہوں فرمایا وانت من اہلی تم بھی میری اہل میں سے ہو۔ یہ کرم تھا کہ سر کار نے اس نیاز مند خالص العقیدت کو مایوس نہ فرمایا اور اپنی اہل کے حکم میں داخل فرمادیا وہ حکمدا داخل ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور نے ان حضرات کے ساتھ اپنی باقی صاحجزادیوں اور قرابت داروں اور ازادوں مطہرات کو ملایا۔ شعبی کا خیال ہے کہ اہل بیت سے تمام بنی ہاشم مراد ہیں اس کو اس حدیث سے تائید پہنچتی ہے جس میں ذکر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رومبارک میں حضرت عباس اور ان کی صاحجزادیوں کو لپٹا کر دعا فرمائی۔

بِارَبِ هَذَا عَمَى وَصَنْوَابِي وَهُولَاءِ أَهْلَ بَيْتِي فَاسْتَرْهَمْ مِنَ النَّارِ
کیستری ایاہم بملنتی هذه فامدت اسکفۃ الباب وحوائط الہیت
ترجمہ:- ”یعنی یارب یہ میرے پچھا اور بعزر لوالد کے ہیں اور یہ میرے الہمیت ہیں انہیں آتش دوزخ سے ایسا چھپا جیسا میں نے اپنی چادر مبارک میں چھپا یا ہے۔“

اس دعا پر مکان کے درود یوار نے آمین کی۔ خلاصہ یہ کہ دولت سراۓ اقدس کے سکونت رکھنے والے اس آیت میں داخل ہیں کیونکہ وہی اس کے مخاطب ہیں جو کہ اہل بیت نسب کا مراد ہونا منفق تھا اس لئے آس سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اس فعل مبارک سے بیان فرمادیا کہ مراد اہل بیت سے عام ہیں۔ خواہ بیت مسکن کے اہل ہوں جیسے کہ ازادوں یا بیت نسب کے اہل بنی ہاشم و مطلب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے آپ نے فرمایا میں ان الہمیت میں سے ہوں جس سے اللہ تعالیٰ نے رجس کو دور کیا اور انہیں خوب پاک کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت میں بیت نسب بھی اسی طرح مراد ہے۔ جس طرح بیت مسکن۔ یہ آیت کریمہ اہل بیت کرام کے فضائل کا منبع ہے۔ اس سے ان کے اعزاز مآثر اور علوشان کا اظہار ہوتا ہے۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ تمام اخلاق دینیہ و احوال مذمومہ سے ان کی تطہیر فرمائی گئی۔ بعض احادیث میں مروی ہے کہ الہمیت نار پر حرام ہیں اور یہی اس تطہیر کا فائدہ اور شمرہ ہے اور جو چیز ان کے احوال شریفہ کے لائق نہ ہو اس سے ان کا پروردگار انہیں محفوظ رکھتا ہے اور بچاتا ہے جب خلافت طاہرہ میں شان مملکت و سلطنت پیدا ہوئی تو قدرت نے آل طاہر کو اس سے بچایا اور اس کے عوض خلافت باطنہ عطا فرمائی۔

حضرات صوفیہ کا ایک گروہ جزم کرتا ہے کہ ہر زمانہ میں قطب اولیاء آل رسول ہی میں سے ہوں گے اس تطہیر کا شمرہ ہے کہ صدقہ ان پر حرام کیا گیا کیونکہ اس کو حدیث شریف میں صدقہ دینے والوں کا میل بتایا گیا ہے۔ مع ذکر اس میں لینے والے کی سکی بھی ہے بجائے اس کے وہ خس وغیرہ کے حقدار بنائے گئے جس میں لینے والا بندو بالا ہوتا ہے۔ اس آل پاک کی عظمت و کرامت یہاں تک ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں جو چیزیں چھوڑتا ہوں جب تک تم انہیں نہ چھوڑ گے ہرگز گراہنا ہو گے۔ ایک کتاب اللہ ایک میری آل دیلی ہی نے ایک حدیث روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ والصلوٰۃ والسلیمات نے ارشاد فرمایا دعا کی رہتی ہے جب تک کہ مجھ پر اور میرے الہمیت پر درود نہ پڑھا جائے۔ شعبی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمۃ سے روایت کی کہ آپ نے آیت

{۳۹}

سوانح کربلا

یعطیک ربک فرضی کی تفسیر میں نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور انور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر راضی ہوئے کہ ان کے اہل بیت میں سے کوئی جہنم میں نہ جائے۔ حاکم نے ایک حدیث روایت کی اور اس کو صحیح بتایا۔ اس کا مضمون یہ ہے کہ آں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے میرے رب نے میرے اہل بیت کے حق میں فرمایا کہ ان میں سے جو تو حید و رسالت کا متر ہوا ان کو عذاب نہ فرمائے۔ طبرانی و دارقطنی کی روایت ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اول گروہ جس کی میں شفاعت کروں گا وہ میرے الہبیت ہیں۔ پھر مرتبہ قریش۔ پھر انصار۔ پھر اہل بیت میں سے جو مجھ پر ایمان لائے اور میرے قرع ہوئے۔ پھر تمام عرب پھر اہل عجم اور جن کی میں پہلے شفاعت کروں گا وہ افضل ہیں۔ بزار و طبرانی و ابو عیین نے روایت کی کہ حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ پاک دامن ہیں پس اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کی ذریت کو نار پر حرام فرمایا۔

نبیق اور ابراہیل شیخ اور دیلمی نے روایت کیا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”کوئی بندہ مومن کامل نہیں ہوتا یہاں تک کہ میں اس کو جان سے زیادہ بیمارانہ ہوں اور میری اولاد کو اپنی جان سے پیاری نہ ہو اور میرے اہل ان کو اپنے اہل سے زیادہ محظوظ نہ ہوں اور میری ذات اس کو اپنی ذات سے زیادہ احباب نہ ہو۔“

ویلی کی روایت کی کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ ”اپنی اولاد کو تین خصلتیں سکھاؤ۔ اپنے نبی کی محبت اور ان کے اہل بیت کی محبت اور قرآن پاک کی قرات۔“

ویلی کی روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جو اللہ کی محبت رکھتا ہے اور جو قرآن کی محبت رکھتا ہے میری محبت رکھنا ہے اور جو میری محبت رکھتا ہے میرے اصحاب اور قرابت داروں کی محبت رکھتا ہے۔“

امام احمد نے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”جو شخص اہل بیت سے بغض رکھے وہ متناقہ ہے۔“

واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا کی تفسیر میں فرمایا کہ ہم جبل اللہ ہیں۔ ویلی سے مرفوع امردی ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطر اس لئے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کے ساتھ محبت رکھنے والوں کو دوزخ سے خلاصی عطا فرمائی۔

امام احمد نے روایت کی کہ حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلیمات نے سیدین کریمین حسین شہیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاتھ پکڑ کر فرمایا۔ جس شخص نے مجھ سے محبت رکھی وہ میرے ساتھ جنت میں ہو گا یہاں معیت سے مرا در قرب حضور ہے کیونکہ انہیاں کا درجہ تو انہیں کے ساتھ خاص ہے کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ محبین اہل بیت کی کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلیمات نے ان کے جنتی ہونے کی خبر دی اور مژده قرب سے مسرور فرمایا مگر یہ وعدہ اور بشارت مومنین تخلصیں اہل سنت کے حق میں ہے رواض اس کا محل نہیں جنہوں نے اصحاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی دے با کی اور اکابر صحابہ کے ساتھ بغض و عناد اپنادین بتالیا ہے۔ ان لوگوں کا حکم مولیٰ علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ و چہرہ الکریم کے اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے جو آپ نے فرمایا یہ لک فی محب مفرط میری محبت میں مفرط ہلاک ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں وارد ہے:-

لا يجمع حب على وبغض ابي بكر و عمر في قلب مومن
ترجمہ:- ”یعنی حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت اور شخیں حلیلین ابو بکر و عمر
رضی اللہ عنہما کا بغض کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا۔“

اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم جھین سے بغض و عداوت رکھنے والا حضرت مولیٰ علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت کے دعویٰ میں جھوٹا ہے۔ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بر سر منبر فرمایا۔ ان اقوام کا کیا حال ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کارحم (قرابت) روز قیامت کچھ کام نہ آئے گا۔ ہاں خدا کی قسم میرا رحم (رشته و قرابت) دنیا و آخرت میں موصول ہے۔

قرطبی نے سید المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے آیہ کریمہ ولسوف

امام احمد و ترمذی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی وہ فرماتے ہیں کہ:
”ہم منافقین کو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غضب سے پچانتے ہیں۔ ان سے
بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے۔“

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اہل بیت کی محبت فرائش دین سے ہے حضرت امام
شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من الله في القرآن انزله
ترجمہ: ”اے اہل بیت پاک تمہاری ولاء ہے فرض قرآن پاک اس پر ناطق بلا کلام۔“

ابوسعید نے شرف النبوة میں روایت کیا، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
اے فاطمہ تمہارے غضب سے غضب الہی ہوتا ہے اور تمہاری رضا سے اللہ راضی۔ اس سے
معلوم ہوا کہ جو کوئی ان کی کسی اولاد کو ایسا پہنچائے اس نے اپنی جان کو اس خطرہ عظیم میں
ڈال دیا کیونکہ اس حرکت سے ان کو غضب ہو گا اور ان کا غضب، غضب الہی کا موجب
ہے۔ اس طرح اہل بیت کی محبت حضرت خاتون جنت کی رضا کا سبب ہے۔ اور ان کی رضا
رضائے الہی۔

اس لئے علمائے کرام نے تصریح فرمائی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلده
پاک کے باشندوں کا ادب کرنا چاہیے اور حضور پاک کے جوار پاک کی حرمت کا لاماظ رکھنا
لازم ہے چہ جائیکہ حضور کی ذات پاک۔

دیلی ہی نے مروف اور ادیت کی ہے کہ ”تو میری اعلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ:
”جو مجھ سے توسل کی تمنا کرتا ہو اور یہ چاہتے ہو کہ اس کو میری بارگاہ کرم میں روز
قیامت حق شفاقت ہو تو چاہیے کہ وہ میرے اہل کی نیازمندی کرے۔ اور ان کو خوشنود رکھے۔“

امام ترمذی نے حضرت حدیفہ سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:
”یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی زمین پر نازل نہ ہوا تھا اس نے حضرت رب العزت
سے مجھ پر سلام کرنے اور یہ بشارت پہنچانے کی اجازت چاہی کہ حضرت خاتون

جنہ فاطمہ زہرا حنفی یہیوں کی سردار ہیں اور حسین کریمین حنفی جوانوں کے۔“
ترمذی و ابن ماجہ میں مذکور ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا:

”جو ان اہل بیت مت کمار پہ (بنگ) کرے میں اس کا محارب ہوں اور جوان
سے صلح کرے اس لی بھروسے صلح ہے۔“

امام احمد و حاکم نے روایت کیا حضور عایپ و علی آل الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:
”فاطمہ میرا جزو ہیں جو انہیں ناگوار وہ مجھے ناگوار جو انہیں پسند وہ مجھے پسند روز قیامت
سوائے میرے نسب اور میرے سبب اور میری خوبیاں وندی کے تمام نسب منقطع ہو
جائیں گے۔“

ان احادیث کے علاوہ جس قدر احادیث قریش کے حق میں وارد ہیں اور جو فضائل
ان میں ذکور ہیں ان سب سے اہل بیت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ کیونکہ اہل بیت سب
کے سب قریش ہیں۔ اور جو فضیلت کہ عام کے لئے ثابت ہو خاص کے لئے ثابت ہوتی
ہے۔ چند حدیثیں جو قریش کے حق میں وارد ہوئی ہیں یہاں بیان کی جاتی ہیں۔ حضور اقدس
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ جمعہ میں ارشاد فرمایا:

”اے لوگو! اقریش کو بڑھاؤ اور ان سے آگئے نہ ہو۔ ایسا نہ کیا تو ہلاک ہو جاؤ
کے۔ ان لی یہ وہی نہ کرو وہ دن گمراہ ہو جاؤ گے۔ ان کے انتاد: نہ ان سے علم
حاصل رہو، وتم نہ اعلمیں ہیں۔ اگر ان کے ظالم کا دیہاں نہ ہو، تاہم میں انہیں ان
مراتب سے خبردار رہتا ہو، کام الہی میں اُنہیں حاصل ہیں۔“

بخاری نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لیا کہ یہ امر قریش میں ہے
ان سے جو عداؤت کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ منہ لے بھی نہیں میں اے لے گا۔ ایک حدیث میں
آیا ہے قریش سے محبت کرو ان سے جو محبت لرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو محظوظ رکھتا ہے۔

امام احمد و ذہبی وغیرہ محدثین نے حضرت امام المؤمنین صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
سے روایت کی کہ جبرائیل امین نے فرمایا کہ:

”میں نے زمین کے مشارق و مغارب الٹ ڈالے کوئی شخص حضور پر نور محمد صطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے افضل نہ پایا اور میں نے زمین کے مشارق و مغارب الٹ ڈالے بنی ہاشم سے بڑھ کر کسی باپ کی اولاد افضل نہ پائی۔“

کسی شاعر نے اس مضمون کو اپنی زبان میں اس طرح ادا کیا ہے
 جریل سے اک روز یوں کہنے لگے شاہ ام تم نے دیکھا ہے جہاں
 کی عرض یہ جریل نے اے مہ جبیں تیری قسم آفاقتہا گرویدہ ام سیر
 بسار خوبیں دیدہ ام لیکن تو چیزے دیگری

امام احمد و ترمذی و حاکم نے حضرت سعد سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:
 ”بُوْنُفْسُ قَرِيْشَ كَيْ بِعَزْتَنِيْ چَاهِيْ گَا اللَّهَ سَرِ رَسَواْكَرِيْ گَا۔“
 ابو بکر بزار نے غیلانیات میں ابو ایوب النصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”روز قیامت بطن عرش سے ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا کہ اے اہل جمیع اپنے سر جھکاؤ۔“ نکاں بن کر کوئی پہاں تک کہ حضرت فاطمہ بنت سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صراط سے گزریں۔ پھر آپ ستر ہزار باندیوں کے ساتھ چوسب حوریں ہوں گی بھلی کے کونڈ نے کی طرح گزر جائیں گی۔“

بخاری و مسلم نے روایت کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اے فاطمہ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کرم مونمنہ یہ بیویوں کی سردار ہو۔“ ترمذی و حاکم کی روایت میں ہے حضور علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: ”مجھے اپنی اہل میں سب سے زیادہ پیاری قاطمہ ہیں۔“

سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ

سیدین جلیلین شہیدین عظیمین

حضرات حسینیں کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما

حضرت امام ابو محمد حسن بن علی مرتضی رضی اللہ عنہما آپ ائمہ اثنا عشر میں امام دوم ہیں۔ آپ کی کنیت ابو محمد لقب تقی دسید عرف سبیط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سبیط اکبر ہے۔ آپ کو ریحانۃ الرسول اور آخرا خلافاء بالصلوٰۃ بھی کہتے ہیں۔ آپ کی ولادت مبارکہ ۱۵ رمضان المبارک ۳۲ھ کی شب میں مدینہ طیبہ کے مقام پر ہوئی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسن رکھا اور ساتویں روز آپ کا عتیقہ کیا۔ اور بال جدائے گئے اور حکم دیا گیا کہ بالوں کے وزن کی چاندی صدقہ کی جائے۔ آپ خامس الال کے اس پیغمبر کے پیشوایں ہیں۔

بخاری کی پدایت میں ہے قبلہ حسن و مجال سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیٰ وآلہ واصحابہ
بارک وسلم سے کسی کو وہ مشاہدہ صورت حاصل نہ تھی جو سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو
حاصل تھی۔ آپ سے پہلے حسن کسی کا نام نہ رکھا گیا تھا یہ جتنی نام پہلے آپ ہی کو عطا ہوا
ہے۔ حضرت اسماء بنت عمیس نے بارگاہ رسالت میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی
ولادت کا شرہ پہنچایا۔ حضور تشریف فرمائوئے فرمایا کہ اسماء میرے فرزند کو لا اسما نے ایک
کپڑے میں حضور کی خدمت میں حاضر کیا۔ سید عالم علیہ اصولہ و استنبیمات نے داہنے کان
میں اذان اور بائیں میں تکبیر فرمائی اور حضرت مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا
تم نے اس فرزند ارجمند کا کیا نام رکھا ہے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری کیا مجال کہ بے اذن
و اجازت نام رکھنے پر سبقت کرتا لیکن اب جو دریافت فرمایا جاتا ہے تو جو کچھ خیال میں آتا
ہے وہ یہ ہے کہ حرب نام رکھا جائے۔ آئندہ حضور مختار ہیں۔ آپ نے ان کا نام حسن رکھا۔

ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور نے انتظار فرمایا۔ یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی بارگاہ میں وہ قرب حاصل ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو درگاہ حضرت مولیٰ علیہ السلام میں تھا۔ مناسب ہے کہ اس فرزند سعادت مند کا نام فرزند ہارون کے نام پر رکھا جائے۔ حضور نے ان کا نام دریافت فرمایا۔ عرض کیا شیر ارشاد ہوا کہ اے جبریل لغت عرب میں اس کے کیا معنی ہیں عرض کیا حسن اور آپ کا نام حسن رکھا گیا۔

بخاری و مسلم نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی فرماتے ہیں، میں نے نور حسم جان مصور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی شہزادہ بلند اقبال حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دوش اقدس پر تھے اور حضور فرمادے تھے ”یا رب میں اس کو محجوب رکھتا ہوں تو مجھی محجوب رکھ۔“

امام بخاری نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، فرماتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پہلو میں تھے۔ حضور ایک مرتبہ لوگوں کی طرف نظر فرماتے اور ایک مرتبہ اس فرزند و جمیل کی طرف میں نے شاہضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا فرزند سید ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی بدولت مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرے گا۔

بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

”حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔“

ترمذی کی حدیث میں ہے حضور علیہ علی آله واصحابہ اصلوۃ والسلام نے فرمایا:

”حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔“

ابن سعد نے عبد اللہ ابن زیر سے روایت کی کہ حضور کے اہل بیت میں حضور کے ساتھ سب سے زیادہ مشاہدہ اور حضور کو سب سے پیارے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے میں نے دیکھا حضور تو سجدے میں ہوتے اور یہ والا شان صاحبزادے آپ کی گردan

مبارک یا پشت اقدس پر بیٹھ جاتے تو جب تک یہ اترنے جاتے آپ سرمبارک نہ اٹھاتے اور میں نے دیکھا حضور رکوع میں ہوتے تو ان کے لئے اپنے قدیم طاہرین کو اتنا کشاوہ فرمادیتے کہ یہ نکل جاتے۔

حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بہت کثیر ہیں۔ آپ علم و وقار حشمت وجاه حودو کرم زہدو طاعت میں بہت بلند پایہ ہیں۔ ایک ایک آدمی کو لاکھ کا عطیہ مرحمت فرمادیتے تھے۔

حاکم نے عبد اللہ بن عمیر سے روایت کیا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے پچیس حج پا پیدا کئے ہیں اور کوئی سواریاں آپ کے ہمراہ ہوتی تھیں مگر امام عالی مقام کی تواضع اور اخلاص و ادب کا اقتداء کر آپ حج کے لئے پا پیدا کھنڈ فرماتے تھے آپ کا کلام بہت شیریں تھا اہل مجلس نہیں چاہتے تھے کہ آپ گفتگو ختم فرمائیں۔

ابن سعد نے علی بن زید جد عان سے روایت کی کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبار اپنا کل مال راہ خدا میں دے ڈالا اور تین مرتبہ نصف مال دیا اور ایسی صحیح تصنیف کی کہ نعلیین شریف اور جوابوں میں سے ایک ایک رکھ لیتے تھے۔

آپ کے علم کا یہ حال تھا کہ ابن عساکر نے روایت کیا کہ آپ کی وفات کے بعد مردان بہت روایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج تو رورہا ہے اور ان کی حیات میں ان کے ساتھ کس طرح کی بدسلوکیاں کیا کرتا تھا۔ تو وہ پھاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا میں اس سے زیادہ حلیم کے ساتھ ایسا کرتا تھا۔ اللہ رے حلم مردان کو بھی اعتراف ہے کہ آپ کی بردباری پھاڑ سے بھی زیادہ ہے۔

حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت

حضرت مولیٰ علی مرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے اہل کوفہ نے آپ کے دست حق پر بیعت کی۔ اور آپ نے وہاں چند ماہ چند روز قیام فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے امر خلافت کا حضرت امیر

معاویہ کو تفویض کرنا مصطفور ذیل شرائط پر منظور فرمایا:

(۱) بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف حضرت امام حسن کو پہنچنے۔

(۲) اہل مدینہ اور اہل جہاز اور اہل عراق میں کسی شخص سے بھی زمانہ حضرت امیر المؤمنین مولیٰ علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے متعلق کوئی موافذہ و مطالبہ نہ کیا جائے۔

(۳) امیر معاویہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوبن کو ادا کریں۔

حضرت امیر معاویہ نے یہ تمام شرائط قبول کیں اور باہم صلح ہو گئی اور حضور انور بنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ مجرہ ظاہر ہوا جو حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے اس فرزند ارجمند کی بدولت مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح فرمائے گا۔

حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے تخت سلطنت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لئے خالی کر دیا۔

یہ واقعہ ریچ الارول ۲۷ھ کا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب کو آپ کا خلافت سے دستبردار ہونا ناگوار ہوا اور انہوں نے طرح طرح کی تعریفیں کیں اور اشاروں کنایوں میں آپ پر ناراضی کا اعلیٰ ہمارا کیا۔ آپ نے انہیں سمجھا دیا کہ مجھے گوارانہ ہوا کہ ملک کے لئے تجھے قتل کراؤں اس کے بعد امام حسن رضی اللہ عنہ نے کوفہ سے رحلت فرمائی اور مدینہ طیبہ میں اقامت گزیں ہوئے۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت امام عالی مقام کا وظیفہ ایک لاکھ سالانہ مقرر تھا۔ ایک سال وظیفہ پہنچنے میں تاخیر ہوئی اور اس درجے سے حضرت امام کو سخت تنگی درپیش ہوئی۔ آپ نے چاہا کہ امیر معاویہ کو اس کی شکایت لکھیں، لکھنے کا ارادہ کیا۔ دوات منگائی مگر پھر کچھ سوچ کر توقف کیا۔ خواب میں حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار پر انوار سے مشرف ہوئے۔ حضور نے استفسار حال فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے فرزند ارجمند کیا حال ہے۔ عرض کیا الحمد للہ تھی تھی ہوں اور وظیفہ کی تاخیر کی شکایت کی۔

حضور نے فرمایا تم نے دوات منگائی تھی تا کہ تم اپنی مشل ایک مخلوق کے پاس اپنی تکلیف کی شکایت لکھو۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم مجبور تھا کیا کرتا، فرمایا یہ دعا پر ہو:

اللهم اقذف فی قلبی رجائلک واقتھع رجائلی عمن سواک حتی لا
ارجو اغیثک اللهم وما ضعفت عنه فوتی وقصر عنہ عملی ولم تنتہ
الیہ رغبتی ولم تبلغه مستلتی ولم اجر علی لسانی مما اعطيت من
الاولین ولا خرين من اليقين فخصنی به يا رب العلمين

ترجمہ:- ”یا رب میرے دل میں اپنی امید ڈال اور اپنے مساوا سے میری امید قطع کر۔
یہاں تک کہ میں تیرے سوا کسی سے امید نہ رکھوں۔ یا رب جس سے میری قوت
عاجز اور عمل قادر ہو اور جہاں تک میری رغبت اور میرا سوال نہ پہنچے اور میری
زبان پر جاری نہ ہو جو تو نے اولین و آخرین میں سے کسی کو عطا فرمایا ہو یقین
سے یا رب العالمین مجھ کو اس کے ساتھ مخصوص فرم۔“

حضرت امام فرماتے ہیں کہ اس دعا پر ایک ہفتہ نہ گزرا تھا کہ امیر معاویہ نے میرے
پاس ایک لاکھ پچاس ہزار روپیہ دیئے اور میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و شانہ کی اور اس کا شکر بجالا یا
پھر خوب میں دولت دیدار سے بہرہ مند ہوا۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا ہے حسن کیا حال ہے میں نے خدا کا شکر کر کے واقعہ عرض کیا، فرمایا اے فرزند جو مخلوق
سے امید نہ رکھے اور خالق سے لوگائے اس کے کام یوں ہی بنتے ہیں۔

حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت

ابن سعد نے عمران ابن عبد اللہ سے روایت کیا کہ کسی نے خواب میں امام حسن رضی
اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے دنوں چشم کے درمیان قل هو الله احد لکھی
ہوئی ہے۔ آپ کے اہل بیت ہیں اس سے بہت خوش ہوئی تھیں جب یہ خواب حضرت سعید
بن میتب رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ واقعی اگر یہ خواب دیکھا
ہے تو حضرت امام کی عمر کے چند ہی روزہ رہ گے۔ یہ تجیر صحیح ثابت ہوئی اور بہت تربیت
زنے میں زبردیا گیا۔ زہر کے اثر سے اسہال کبdi لاحق ہوا اور آنٹوں کے ٹکڑے کٹ
کر کر اسہال میں خارج ہوئے۔ اس سلسلہ میں آپ کو چالیس روز سخت تکلیف رہی
تربیت وفات جب آپ کی خدمت میں آپ کے برادر عزیز سیدنا حضرت امام حسین رضی

اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر ہو کر فرمایا کہ آپ کو کس نے زہر دیا ہے تو فرمایا کہ تم اسے قتل کرو گے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بے شک حضرت امام عالی مقام نے فرمایا کہ میرا مگان جس کی طرف ہے اگر درحقیقت وہی قاتل ہے تو اللہ تعالیٰ منقم حقیق ہے اور اس کی گرفت بہت سخت ہے اور اگر وہ نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میرے سب سے کوئی بے گناہ بہنائے مصیبت ہو۔ مجھے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ زہر دیا گیا ہے لیکن اس مرتبہ کا زہر سب سے زیادہ تیز ہے۔

سبحان اللہ حضرت امام کی کرامت اور منزلت کیسی بلند و بالا ہے کہ آپ امی خنت تکلیف میں بہنلا ہیں۔ آئین کٹ کر کلکل رہی ہیں۔ نزع کی حالت ہے مگر انصاف کا باذناہ اس وقت بھی اپنی عدالت و انصاف کا نہ ملنے والا نقش صفحہ تاریخ پر شیفت فرماتا ہے اس کی احتیاط اجازت نہیں دیتی کہ جس کی طرف گمان ہے اس کا نام بھی لیا جائے۔ اس وقت آپ کی عرش ریف پینتا لیس سال چھ ماہ چند روز کی تھی کہ آپ نے پانچویں ربیع الاول ۲۹ کو اس دارنا پائیدار سے مدینہ طیبہ میں رحلت فرمائی انا لله وانا الیہ راجعون

وفات کے قریب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کے برادر محترم حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو گھبراہت اور بے قراری زیادہ ہے اور سیماۓ مبارک پر حزن و ملال کے آثار نمودار ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکسیم خاطر مبارک کے لئے عرض کیا اے برادر گرامی آپ کیوں رنجیدہ ہیں۔ بے قراری کا کیا سبب ہے مبارک ہو آپ کو عنقریب حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں باریابی حاصل ہو گی۔ اور حضرت علی مرتضی اور حضرت خدیجۃ الکبری اور فاطمہ زہرا اور حضرت قاسم اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا دیدار نصیب ہو گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے برادر عزیز میں کچھ ایسے امر میں داخل ہونے والا ہوں جس کی مثل اب تک داخل نہیں ہوا تھا اور خلق الہی میں سے ایسے خلق کو دیکھتا ہوں جس کی مش میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش آنے والے واقعات اور کوئیوں کی بدسلوکی واپسی اسی کا بھی تذکرہ کیا۔

اس ارشاد مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کی نظر کے سامنے کربلا کا ہولناک مظاہر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہائی کا نقشہ پیش تھا اور کوئیوں کے مظالم کی تصویریں آپ کوغم گیں کر رہی تھیں اس کے ساتھ آپ نے یہی فرمایا کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقة رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی تھی کہ مجھے روضہ طاہرہ میں فن کی جگہ عنایت ہو جائے انہوں نے اس کو منظور فرمایا۔ میری وفات کے بعد ان کی خدمت میں عرض کیا جائے لیکن میں گمان کرتا ہوں کہ قوم مانع ہو گی۔ اگر وہ ایسا کریں تو تم ان سے تکرار مت کرنا۔

حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب وصیت حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے درخواست کی، آپ نے اس کو قبول فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ بڑی عزت و کرامت کے ساتھ منظور ہے لیکن مردان مانع ہوا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ حضرت امام حسین اور ان کے ہمراہ تھیار بند ہو گئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھائی کی وصیت یاددا کرو اپس کیا اور یہ فرزند رسول جگر گوشہ بتوں بیفع شریف میں اپنی والدہ محترمہ حضرت خاتون جنت کے پہلو میں فن ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہم و رضو عنہ۔

مورخین نے زہر خورانی کی نسبت جعدہ بنت اشعت ابن قیس کی طرف کی ہے اور اس کو حضرت امام کی زوجہ بتایا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ زہر خورانی باغوائے یزید ہوئی ہے اور یزید نے اس سے نکاح کا وعدہ کیا تھا۔ اس طبع میں آ کر اس نے حضرت امام کو زہر دیا۔ لیکن اس روایت کی کوئی سند صحیح و مستیاب نہیں ہوئی اور بغیر کسی سند صحیح کے کسی مسلمان پر قتل کا الزام اور ایسے عظیم الشان قتل کا الزام کس طرح جائز ہو سکتا ہے قلع نظر اس بات کے کہ روایت کے لئے کوئی سند نہیں ہے اور مورخین نے بغیر کسی معترض ریلے یا معتقد حوالہ کے لکھ دیا ہے۔

یہ خبر و واقعات کے لحاظ سے بھی ناقابل اطمینان معلوم ہوتی ہے واقعات کی تحقیق خود و واقعات کے زمانے میں جیسی ہو سکتی ہے مغلک ہے کہ بعد کو لوگیں تحقیق ہو۔ خاص کر جبکہ واقعہ اتنا اہم ہو گریت ہے کہ اہل بیت اطہار کے اس امام جلیل کا قتل۔ اس قاتل کی خبر غیر کو کیا

ہوتی۔ خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتہ نہیں ہے۔ یہی تاریخیں بتاتی ہیں کہ وہ آپ نے برادرِ عظیم سے زہر دہنہ کا نام دریافت فرماتے ہیں اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دینے والے کا علم نہ تھا۔

اب رہی یہ بات کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی کاتام لیتے۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا تو اب جعدہ کو قاتل ہونے کے لئے میں کرنے والا کون ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا امامین کے صاحجزادوں میں سے کسی صاحب کو اپنی آخریات تک جعدہ کی زہر خورانی کا کوئی ثبوت نہ پہنچا ہے ای ان میں سے کسی نے اس پر شرعی مواخذہ کیا۔

ایک اور پہلو اس واقعہ کا خاص طور پر قابلِ لحاظ ہے وہ یہ کہ:

”حضرت امام کی بیوی کو غیر کے ساتھ ساز باز کرنے کی شفیع تہمت کے ساتھ مقام کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بدترین تبراء ہے جب نہیں کہ اس حکایت کی بنیاد خارجیوں کی افتراق اساتھ ہوں جب کچھ اور معتبر ذرائع سے یہ معلوم ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشیر التروج تھے اور آپ نے (۱۰۰) سے قریب نکاح کئے اور طلاقیں دیں۔ اکثر ایک دوشب ہی کے بعد طلاق دے دیتے تھے اور حضرت امیر المؤمنین علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم بار بار اعلان فرمائے تھے کہ حضرت امام حسن کی عادت ہے۔ یہ طلاق دے دیا کرتے ہیں کوئی اپنی بڑی ان کے ساتھ نہ ہیا ہے۔“

گر مسلمان یہاں اور ان کے والدین یہ تینا کرتے تھے کہ کنیز ہونے کا شرف ہی حاصل ہو جائے اس کا اثر تھا کہ حضرت امام حسن جن عورتوں کو طلاق دے دیا کرتے تھے وہ اپنی باقی زندگی حضرت امام کی محبت میں سیدایا نہ گزار دیتیں اور ان کی حیات کا لمحہ حضرت امام کی یاد اور محبت میں گزرتا تھا۔ ایسی حالت میں یہ بات بہت بعید ہے کہ امام کی بیوی حضرت امام کے فیضِ محبت کی قدر نہ کرے اور یہ زید پلید کی طرف ایک طمع فاسد سے امام جلیل کے قتل جیسے سخت جنم کا ارتکاب کرے۔ والله اعلم بحقیقتِ الحال۔

کربلا کا خونی منظر

سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقاء کی عدیم المثال جانبازیاں

ولادت مبارکہ

سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ۵ شعبان ۲۳ھ کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضور پر نو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسین اور شیر رکھا اور آپ کی کنیت ابو عبد اللہ اور لقب سبط رسول اللہ اور بیحاتۃ الرسول ہے اور آپ کے برادرِ عظیم کی طرح آپ کو بھی جنتی جوانوں کا سردار اور اپنا فرزند بنایا حضور اقدس نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ کے ساتھ کمال رافت و محبت تھی۔ حدیث شریف میں ارشاد ہوا۔

عن ابن عباس من احبابہما فقد احبني ومن ابغضهمما فقد ابغضني

ترجمہ:- ”جس نے ان دونوں (حضرت امام حسن و امام حسین) سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی۔“

جنتی جوانوں کا سردار فرمانے سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ راہ خدا میں اپنی جوانی میں راہی جنت ہوئے۔ حضرت امامین کریمین ان کے سردار ہیں اور جوان کسی شخص کو بخلاف اس کے نو عمری کے بھی کہا جاتا ہے اور بخلاف شفقت بزرگان کے بھی کہ آدمی کی عمر کتنی بھی ہو اس کے بزرگ اس کو جوان بلکہ اڑاٹک کہتے ہیں۔ شیخ اور بوڑھا نہیں کہتے ہیں۔ اسی طرح بمعنی فتوت و جوانمردی بھی لفظ جوان کا اطلاق ہوتا ہے خواہ کوئی شخص بوڑھا ہو مگر ہمتو مردانہ رکھتا ہو وہ اپنی شجاعت و بسالت کے لحاظ سے جوان کہلایا جاتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ

تعالیٰ عنہ کی عمر شریف اگرچہ وقت وصال پچاس سے زائد تھی مگر شجاعت و جوانمردی کے لحاظ سے نیز شفقت پدری کے اقتداء سے آپ کو جوان فرمایا گیا۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ انپرائے کرام و خلفائے راشدین کے سوا امین جلیلین تمام اہل جنت کے سردار ہیں کیونکہ جوانان جنت سے تمام اہل جنت مراد ہیں اس لئے کہ جنت میں بوزہ ہے جوان کافر قبہ ہو گا۔ وہاں سب ہی جوان ہوں گے اور سب کی ایک عمر ہوگی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں فرزندوں کو اپنا پھول فرمایا ہماری محنتی من الدنیا وہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ (رواه البخاری)

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان دونوں فرنہالوں کو پھول کی طرح سوچتے اور سینہ سے پٹاتے۔ (رواه الترمذی)

حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنجی امام الغفل بنت الحارث حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ایک روز حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حضور میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم آج میں نے ایک پریشان خواب دیکھا۔ حضور نے دریافت فرمایا کیا عرض کیا وہ بہت ہی شدید ہے ان کو اس خواب کے بیان کی گرجات نہ ہوتی تھی۔ حضور نے مکر دریافت فرمایا تو عرض کیا کہ میں نے دیکھا کہ جسد اطہر کا ایک گلزار کامٹا گیا اور میری گود میں رکھا گیا۔ ارشاد فرمایا تم نے بہت اچھا خواب دیکھا۔ انشاء اللہ تعالیٰ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹا ہو گا اور وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا۔

ایسا ہی ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور حضرت امام الغفل کی گود میں دیئے گئے۔ امام الغفل فرماتی ہیں میں نے ایک روز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو آپ کی گود میں دیا۔ کیا دیکھتی ہوں کہ چشم مبارک سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہیں۔ میں نے عرض کیا یا نبی اللہ میرے ماں باپ حضور پر قربان یہ کیا حال ہے۔ فرمایا جریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ خبر فرمائی کہ میری امت میرے اس فرزند کو قتل کرے گی۔ میں نے کہا کیا اس کو؟ فرمایا ہاں۔ اور میرے پاس اس کے سرخ مقتل کی مٹی بھی لاۓ۔ (رواه البیهقی فی الدلائل)

شہادت کی شہرت

حضرت امام عالی مقام کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر بھی مشہور ہو چکی تھی شیر خوارگی کے ایام میں حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام الغفل کو آپ کی شہادت کی خبر دی۔ خاتون جنت نے اپنے اس فرنہال کو زمین کربلا میں خون بھانے کے لئے اپنا خون جگر (دودھ) پلایا۔ علی مرتضی نے اپنے دل بنڈ جگر پیوند کو خاک کربلا میں لوٹنے اور دم توڑنے کے لئے سینہ سے لگا کر پالا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیابان میں سوکھا حلق کٹوانے اور راہ خدا میں مردانہ وار جان نذر کرنے کے لئے امام حسین کو اپنی آغوش رحمت میں تربیت فرمایا۔ یہ آغوش کرامت و رحمت فردوسی چنستا نوں اور جنتی ایوانوں سے کہیں زیادہ بالا مرتب ہے۔ اس کے ربجہ کی کیا نہایت اور جو اس گود میں پرورش پائے اس کی عزت کا کیا اندازہ۔ اس وقت کا تصور دل لرزاد ہتا ہے جب کہ اس فرزند ارجمند کی ولادت کی سرست کے ساتھ شہادت کی خبر پہنچی ہو گی۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چشم رحمت نے اشکوں کے موٹی بر سادی ہے ہوں گے۔

اس خبر نے صحابہ کبار جان شاران اہل بیت کے دل ہلادیئے۔

اس درد کی لذت علی مرتضی سے پوچھئے صدق و صفا کی امتحان گاہ میں سنت غلیل ادا کر رہے ہیں۔

حضرت خاتون جنت کی خاک زیر قدم پاک پر قربان جس کے دل کا گلزار ناز نین لاڈا لائیں سے لگا ہوا ہے۔ محبت کی نگاہوں سے اس نور کے پسلے کو دیکھتی ہیں۔ وہ اپنے سرور آفرین تبسم سے دل ربانی کرتا ہے۔ ہمکہ ہمکہ محبت کے سمندر میں حاطم پیدا کرتا ہے۔ ماں کی گود میں کھیل کر شفقت مادری کے جوش کو اور زیادہ موجزن کرتا ہے۔ میٹھی میٹھی نگاہوں اور پیاری پیاری باتوں سے دل لبھاتا ہے۔ عین ایسی حالت میں کربلا کا نقشہ آپ کے پیش نظر ہوتا ہے۔ جہاں یہ چھینتا نازوں کا پالا بھوکا پیاسا سیماں میں بے رحمی کے ساتھ شہید ہو رہا ہے۔ نعلیٰ مرتضی ساتھ ہیں نہ حسن بھتی عزیز و اقارب برادر و فرزند قربان ہو چکے ہیں۔ تنہایہ ناز نین ہیں۔ تیروں کی بارش سے نوری جسم لہوہماں ہو رہا ہے خیمہ والوں کی بے

کسی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اور راہ خدا میں مردانہ ارجام شارکرتا ہے کربلا کی زمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول سے نگین ہوتی ہے۔ وہ شیم پاک جو حبیب خدا کو پیاری تھی کوفہ کے جنگل کو عطر پیز کرتی ہے۔ خاتون جنت کی نظر کے سامنے یہ نقشہ پھر رہا ہے۔ اور فرزند سیدنے سے پٹ رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ اس منظر کو دیکھیں۔

دیکھنا تو یہ ہے کہ اس فرزند ارجمند کے جد کریم جبیب خدا ہیں۔ حضرت حق بارک تعالیٰ ان کا رضا جو ہے۔ ولسوف یعطیک ربک فتوحی بروجہ میں ان کا حکم نافذ ہے۔ شحر و جرم سلام عرض کرتے ہیں اور مطیع فرمان ہیں چاند اشاروں پر چلا کرتا ہے۔ ذوبابا ہوا سورج پلٹ آتا ہے۔ بدر میں ملائکہ الشکری بن کر حاضر خدمت ہوتے ہیں کوئی نہ کے ذرہ ذرہ پر بحکم الہی حکومت ہے۔ اولین و آخرین سب کی عقدہ کشائی اشارہ چشم پر موقوف منحصر ہے۔ ان کے غلاموں کے صدقہ میں خلق کے کام بنتے ہیں۔ مدیں ہوتی ہیں۔ روزی ملتی ہے۔ هل تنصر عن و ترزا قون الا بضعفانکم (رواہ البخاری)

باوجود اس کے اس فرزند ارجمند کی خبر شہادت پاک چشم مبارک سے اشک تو جاری ہو جاتے ہیں مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لئے ہاتھ نہیں اٹھاتے بارگاہ الہی میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمن وسلامت اور اس حادثہ ہائل سے تحفظ رہنے اور شمنوں کے برپا ہو ہوئے کی دعائیں فرماتے، نہ علی مرتفعی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم اس خبر نے تدلی و جگر پارہ کر دیے۔ آپ کے قربان بارگاہ حق میں اپنے اس فرزند کے لئے دعا فرمائیں۔ نہ خاتون جنت التجا کرتی ہیں کہ اسے سلطان دارین آپ کے فیض سے عالم فیضیاب ہے اور آپ کی دعا مستجاب۔ میرے اس لاذلے کے لئے دعا کیجئے نہ اہل بیت نہ ازواج مطہرات نہ صحابہ کرام۔ سب خبر شہادت سنتے ہیں۔ شہرہ عام ہو جاتا ہے مگر بارگاہ رسالت میں کسی طرف سے دعا کی درخواست پیش نہیں ہوتی۔

بات یہ ہے کہ مقام امتحان میں ثابت قدی درکار ہے۔ یہ محل غدر و تامل نہیں ایسے موقع پر جان سے دربغ جانباز مردوں کا شیوه نہیں، اخلاص سے جا شاری عین تمنا ہے۔ دعا میں کی گئیں مگر یہ کہ فرزند مقام صفا ووفا میں صادق ثابت ہو۔ توفیق الہی مسادر ہے۔

مصادب کا ہجوم اور آلام کا انبوہ اس کے قدم کو پیچھے نہ ہٹا سکے۔

احادیث میں اس شہادت کی خبریں وارد ہیں۔ ابن سعد و طبرانی نے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جیر میل نے خردی کہ میرے بعد میرا فرزند حسین زمین طف میں قتل کیا جائے گا اور جریل میرے پاس یہ مٹی لائے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہ (حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی خواب گاہ (مقتل) کی خاک ہے۔ طف قریب کو فاس مقام کا نام ہے جس کو کربلا کہتے ہیں۔

"امام احمد نے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: "میری دولت سرائے اقدس میں وہ فرشتہ آیا جو اس سے قبل کبھی حاضر نہ ہوا تھا اس نے عرض کیا کہ آپ کے فرزند حسین (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) قتل کئے جائیں گے اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس زمین کی مٹی ملاحظہ کراؤں جہاں وہ شہید ہوں کے۔ پھر اس نے تھوڑی سی سرخ مٹی پیش کی۔"

اس قسم کی حدیثیں بکثرت وارد ہیں۔ کسی میں بارش کے فرشتہ کے خبر دینے کا تذکرہ ہے۔ کسی میں اسلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خاک کر بلاؤ یعنی کرنے اور اس خاک کے خون ہو جانے کا علامت شہادت امام قرار دینے کا تذکرہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہادت کی بار بار اطلاع دی گئی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی پارہ اس کا تذکرہ فرمایا اور یہ شہادت حضرت امام کی عہد طفویلت سے خوب مشہور ہو چکی اور سب کو معلوم ہو گیا کہ آپ کا مشہد کربلا ہے۔

حاکم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ہم کوئی شک باتی نہ رہا اور اہل بیت بااتفاق جانتے تھے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں شہید ہوں گے۔

ابو نعیم نے یعنی حضری سے روایت کی کہ وہ سفر صفين میں حضرت مولیٰ علی مرتفعی کرم اللہ وجہہ کے ہمراہ تھے۔ جب نیزوی کے قریب پنجھے جہاں حضرت یونس علیہ السلام کا مزار اقدس ہے تو حضرت علی مرتفعی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ نے ندادی کہ اے ابو عبد اللہ فرات کے

کنارے تھہرو۔ میں نے عرض کیا کہ کس لئے فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرئیل نے مجھے خبر دی ہے کہ امام حسین فرات کے کنارے شہید کئے جائیں گے اور مجھے وہاں کی ایک مشتملی دکھائی۔

ابو نعیم نے اصنیف میں بناتے سے روایت کی کہ حضرت مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے ہمراہ حضرات امام حسین رضی اللہ عنہ کی قبر کے مقام پر پہنچے۔ حضرت مولیٰ نے بیان فرمایا یہاں ان شہداء کے اونٹ بندھیں گے یہاں ان کے کباوے رکھے جائیں گے۔ یہاں ان کے خون بکیں گے۔ جواناں آں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں شہید ہوں گے۔ آں ان وزمیں ان پر روکیں گے۔

ان خبروں سے معلوم ہوتا ہے کہ علی مرتضی اور صحابہ کبار زمین کرپا لے ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ پہنچاتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہاں اونٹ بندھیں گے کہاں سامان رکھا جائے گا۔ یہاں خون بکیں گے۔ یہ شہادت کا کمال ہے ایسا اعلان عام ہوا پہنچانے سب ہاں ہاں مقام پتا دیا گیا ہو وہاں کی خاک شیشوں میں رکھ لی گئی ہو۔ اس کے خون ہو جانے کا انتشار، اور شوق شہادت میں کمی نہ آئے۔ جذب جانشیری روز افزوں پر ہوتا ہے۔ تمام پا بندے ۳۲ پہلے سے باخبر ہوں، ہر دل اس ذمہ لے اور صبر و استقلال کے ساتھ بجان مطابرے دالے کی راہ میں جان قربان کی جائے۔ یہ مردانہ کامل اور فرزندان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حصہ اور انہیں کا حوصلہ ہے۔

طبعہ ہر مرغ کے انہیں نیست

پہاڑ بھی ہوتا تو درخت سے گہرالختا اور زندگی کا ایک ایک لمحہ کا شامشکل ہو جاتا ہے۔ مگر طالب رضاۓ حق مولیٰ کی مرضی پر فدا ہوتا ہے اسی میں اس کے دل کا چین اور اس کی حقیقی تسلی ہے۔ کبھی وحشت پریشانی اس کے پاس نہیں پھکلتی۔ کبھی اس مصیبت عظیمی سے خلاص اور ہائی کے لئے وہ دعا نہیں کرتا۔ انتفار کی ساقیں شوق کے ساتھ گزارتا ہے اور وقت موعود کا بے چینی کے ساتھ منتظر رہتا ہے۔

واقعات شہادت

یزید کا مختصر تذکرہ

یزید بن معاویہ ابو خالد اموی وہ بد نصیب شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت کرام کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے جس پر ہر قرن میں دنیا کے اسلام ملامت کرتی رہی ہے۔ اور قیامت تک اس کا نام تحقیر کے ساتھ لایا جائے گا۔

یہ بد باطن سیاہ دل، نگ خاندان ۲۵ ۲۶ میں امیر معاویہ کے گھر میسون بنت سجدہ کلبیہ کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ نہایت موتاً بدنما، کثیر اشر، بد خلق، تند خوفاًست، فاجر، شرabi، بد کار، ظالم، بد ادب، گستاخ تھا۔ اس کی شرارتیں اور بے ہو دیگیاں ایسی ہیں جن سے بد معاشوں کو بھی شرم آئے۔ عبد اللہ بن حنظله الخشیل نے فرمایا، خدا کی قسم ہم نے یزید پر اس وقت خروج کیا جب انہیں اندریشہ ہو گیا کہ اس کی بدکاریوں کے سبب آسمان سے پھرناہ برنسے گئیں۔ (وافقی)

حرمات کے ساتھ زکاح اور سود وغیرہ منہیات کو اس بے دین نے علانية رواج دیا۔ مدینہ طیبہ مکہ کر مدد کی بے حرمتی کرائی۔ ایسے شخص کی حکومت گرگ کی چوپانی سے زیادہ خطر ناک تھی۔ ارباب فراست اور اصحاب ابرار اس وقت سے ڈرتے تھے۔ جب کہ عمان سلطنت اس شقی کے ہاتھ میں ہوئی۔ ۴۵ ۴۶ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دعا کی:

”یارب میں تھھ سے پناہ مانگتا ہوں ۲۷ ۲۸ کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے۔“

اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ حامل اسرار تھے انہیں معلوم تھا کہ ۲۹ ۳۰ کا آغاز لڑکوں کی حکومت اور فتنوں کا وقت ہے۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور انہوں نے ۴۷ ۴۸ میں بمقام مدینہ طیبہ رحلت فرمائی۔

رویانی نے اپنی مند میں حضرت ابو درداء صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت کی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ میں نے حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

۷۹

سوانح کربلا

کو ایسا بابرست بنا دیتا ہے تو حسین کریمین اور آل پاک جو بن اقدس کا جزو ہیں ان کا کیا مرتبہ ہوگا۔ اور ان کا کیا احترام لازم ہے۔ مگر نصیبی اور شفاقت کا کیا علاج۔

امیر معاویہ کی وفات کے بعد یزید تخت سلطنت پر بیٹھا اور اس نے اپنی بیعت لینے کے لئے اطراف و ممالک سلطنت میں مکتوب روانہ کئے۔ مدینہ طیبہ کا عامل جب یزید کی بیعت لینے کے لئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کے فرق و ظلم کی بناء پر اس کو نا اہل قرار دیا اور بیعت سے انکار فرمایا۔ اسی طرح حضرت زیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی۔

حضرت امام جانتے تھے کہ بیعت کا انکار یزید کے اشتمال کا باعث ہوگا اور نابکار جان کا دشمن اور خون کا پیاسا ہو جائے گا۔ لیکن امام کے دیانت و تقویٰ نے اجازت نہ دی کہ اپنی جان کی خاطر نا اہل کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور مسلمانوں کی تباہی اور شرع و احکام کی بے حرمتی اور دین کی محضرت کی پرواہ نہ کریں اور یہ امام جیسے جلیل الشان فرزند رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) سے کس طرح ممکن تھا۔ اگر امام اس وقت یزید کی بیعت کر لیتے تو یزید اپ کی بہت قدر و منزلت کرتا۔ اور آپ کی عافیت و راحت میں کوئی فرق نہ آتا۔ بلکہ بہت سی دولت دنیا آپ کے پاس جمع ہو جاتی۔ لیکن اسلام کا نظام درہم برہم ہو جاتا اور دین میں ایسا شاد برپا ہو جاتا جس کا دور کرنا بعد کو ناممکن ہوتا یزید کی ہر بدقاری کے جواز کے لئے امام کی بیعت سند ہوتی اور شریعت اسلامیہ و ملت حنفیہ کا نقشہ مت جاتا۔ شیعوں کو بھی آنکھیں کھول کر دیکھ لینا چاہیے کہ امام نے اپنی جان کو خطرہ میں ڈال دیا۔ تقبیہ کا تصور بھی خاطر مبارک پر نہ گزر۔ اگر تقبیہ جائز ہوتا تو اس کے لئے اس سے زیادہ ضرورت کا اور کون وقت ہو سکتا تھا۔ حضرت امام وابن زیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیعت کی درخاست اسی لئے پہلے کی گئی تھی کہ تمام اہل مدینہ ان کا انتباہ کریں گے۔ اگر ان حضرات نے بیعت کر لی تو پھر کسی کو تاہل نہ ہو گا لیکن ان حضرات کے انکار سے وہ منصوبہ خاک میں مال گیا اور یزید یوں میں اسی وقت سے آتش عناد بھڑک آئی اور بے ضرورت ان حضرات کو اسی شب مدینہ سے مکہ مکرمہ منتقل ہونا پڑا۔ یہ واقعہ چوتھی شعبان ۶۰ھ کا ہے۔

سے سن کر حضور نے فرمایا کہ:

”میری سنت کا پہلا بدلے والا بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔“

ابو یعلیٰ نے اپنی مندی میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

”میری امت میں عدل و انصاف قائم رہے گا یہاں تک کہ پہلا رخنہ اندوڑ ہانی سم بی امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔“

یہ حدیث ضعیف ہے۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور یزید کی سلطنت

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجب ۶۰ھ میں مقامِ مشقِ لقوہ میں بتلا ہو کر وفات پائی۔ آپ کے پاس حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تبرکات میں سے ازار شریف، روانے اقدس، قیص مبارک، موئے شریف، اور تراش ہائے ناخن ہمایوں تھے۔ آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے حضور کی ازار شریف و روانے مبارک قیص اقدس میں کفن دیا جائے اور میرے ان اعضاء پر جن سے بندہ کیا جاتا ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے موئے مبارک اور تراش ناخن اقدس رکھ دیئے جائیں اور مجھے احمد الرأہمین کے رحم پر چھوڑ دیا جائے۔

کور باطن یزید نے دیکھا تھا کہ اس کے باپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات اور بدن اقدس سے گھوچانے والے کپڑوں کو جان سے زیادہ عزیز تھا اور دم آخہ تمام زدہ مالِ ثروت و حکومت سب سے زیادہ وہی چیز بیماری تھی اور اسی کو ساتھ لے جانے کی تھا حضرت امیر کے دل میں تھی۔ اس کی برکت سے انہیں امید تھی کہ اس ملبوس پاک میں بوئے محبوب ہے۔ یہ مقامِ غربت میں پیار ارفق اور بہترین مونس ہو گا اور اللہ تعالیٰ اپنے جیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس اور تبرکات کے صدقے میں مجھ پر حرم فرمائے گا۔ اس سے وہ سمجھ لکھتا تھا کہ جب حضور کے بدن پاک سے چھوچانا ایک کپڑے

امام عالی مقام کی مدینہ طیبہ سے روانگی

مدینہ سے حضرت امام کی رحلت کا دن الی مدینہ اور خود حضرت امام کے لئے کیسے رنج و اندوہ کا دن تھا۔ اطراف عالم سے تو مسلمان وطن ترک کر کے اعزہ و احباب کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ حاضر ہونے کی تمنا کریں دربار رسالت کی حاضری کا شوق دشوار گزار نزلیں اور بحر و برد کا طویل اور خوفناک سفر اختیار کرنے کے لئے بے قرار بنا دے۔ ایک ایک لوگ کی جہانی انہیں شاق ہوا در فرزند رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) جو ارسول سے رحلت کرنے پر مجہور ہو۔ اس وقت کا تصور دل کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارادہ رخصت آستانہ قدیمہ پر حاضر ہوئے ہوں گے اور دیدہ خون بارنے اٹک فلم کی بارش کی ہوگی دل در دم غم مہوری سے گھائل ہوگا۔ جد کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے روضہ طاہرہ سے جدائی کا صدمہ حضرت امام کے دل پر رنج و غم کے پھاڑ توڑ رہا ہوگا۔ الی مدینہ کی مصیبت بھی کیا اندازہ ہو سکتا ہے۔ دیدار جبیب کے فدائی اس فرزند کی روایات سے اپنے قلب مجروح تو تکسین دیتے تھے ان کا دیدار ان کے دل کا قرار تھا۔ آج یہ تراول مدینہ طیبہ سے رخصت ہو رہا ہے۔ امام عالی مقام مدینہ طیبہ سے رخصت ہو رہا ہے۔ امام عالی مقام نے مدینہ طیبہ سے بہزادگم و اندوہ بادل ناشاد رحلت فرمائی کہ کرمہ اقامت فرمائی۔

امام کی جناب میں کوفیوں کی درخواستیں

یزیدیوں کی کوششوں سے الی شام سے جہاں یزید کی تخت گاہ تھی یزید کی رائے مل سکی اور وہاں کے باشندوں نے اس کی بیعت کی الی کوفہ امیر معاویہ کے زمانہ ہی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں درخواستیں بھیج رہے تھے تشریف آوری کی بخششیں کر رہے تھے لیکن امام نے صاف انکار کر دیا تھا۔ امیر معاویہ کی وفات پر اور یزید کی تخت بخششی کے بعد الی عراق کی جماعتوں نے متفق ہو کر امام کی خدمت میں درخواستیں بھیجنیں اور ان میں اپنی نیاز مندی و جذبات عقیدت و اخلاص کا اظہار کیا اور حضرت امام پر اپنے

جان و مال فدا کرنے کی تمنا ظاہر کی۔

اس طرح کے انتظاموں اور درخواستوں کا سلسلہ بند گیا اور تمام جماعتوں اور فرقوں کی طرف سے ڈیڑھ سو کے قریب عرضیاں حضرت امام عالی مقام کی خدمت میں پہنچیں۔ کہاں تک انعام کیا جاتا اور کب تک حضرت امام کے اخلاق خشک جواب کی اجازت دیتے۔ ناجار آپ نے اپنے چیخازاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کی روائی تجویز فرمائی۔

اگرچہ امام کی شہادت کی خبر مشہور تھی اور کوئیوں کی یہوفائی کا پہلے بھی تجربہ ہو چکا تھا۔ مگر جب بیزید بادشاہ بن گیا اور اس کی حکومت و سلطنت دین کے لئے خطرہ تھی اور اس کی وجہ سے اس کی بیعت نار و اتحی اور وہ طرح کی تدبیروں اور جیلوں سے چاہتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت کریں۔ ان حالات سے کوئیوں کا بھی پاس ملت بیزید کے بیعت سے دست کشی کرنا اور حضرت امام سے طالب بیعت پر راضی ہناؤ اور صاحب التھقاق اہل سے درخواست بیعت کرنا۔ اس پر اگر وہ ان کی استدعا قبول نہ کرے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ اس قوم کو اس جابر ہی کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ امام اگر اس وقت کوئیوں کی درخواست قبول نہ فرماتے تو بارگاہ الی میں کوئیوں کے اس مطالبة کا امام کے پاس کیا جواب ہوتا کہ ہم ہر چند رپے ہوئے مگر امام بیعت کے لئے راضی نہ ہوئے بدیں وجہ ہم کو بیزید کے ظلم و تشدد سے مجبور ہو کر اسکی بیعت کرنا پڑی۔ اگر امام ہاتھ بڑھاتے تو ہم ان پر جانیں فدا کرنے کے لئے حاضر تھے۔ یہ مسئلہ ایسا درپیش آیا جس کا حل بجز اس کے اور پچھنہ تھا کہ حضرت امام ان کی دعوت پر لیکی فرمائیں۔

اگرچہ اکابر صحابہ کرام ابن عباس و حضرت ابن عمر و حضرت جابر و حضرت ابوسعید و حضرت ابووالد لشی وغیرہ ہم حضرت امام کی اس رائے سے متفق نہ تھے اور انہیں کوئیوں کے عہد و مواثیق کا اعتبار نہ تھا، امام کی محبت اور شہادت امام کی شہرت ان سب دلوں میں اختلاج پیدا کر رہی تھی۔ گو کہ یہ یقین کرنے کی بھی کوئی وجہ نہ تھی کہ شہادت کا بھی وقت ہے اور اسی سفر میں یہ مرحلہ درپیش ہو گا لیکن اندر یہ شائع تھا حضرت امام کے سامنے مسئلہ کی یہ صورت درپیش تھی کہ اس استدعا کو روکنے کے لئے عذر شرعی کیا ہے۔ اور ہر ایسے جلیل القدر صحابہ کے

شدید اصرار کا لحاظ اداہر اہل کوفہ کی استدعا دنہ فرمانے کے لئے نہایت پیغمبر مسکلہ تھا جس کا حل بجراں کے پچھے نظر نہ آیا کہ پہلے حضرت امام مسلم کو بھیجا جائے اگر کوئی نہ بے دفاعی کی تو عذر شرعی مل جائے گا۔ اور اگر وہ اپنے عهد پر قائم رہے تو صحابہ کو تسلی دی جائے گی۔

حضرت مسلم کی کوفہ کو روائی

اس بن اپا آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ فرمایا اور اہل کوفہ کو تحریر فرمایا کہ تمہاری استدعا پر حضرت مسلم کو روانہ کرتے ہیں ان کی نصرت و حمایت تم پر لازم ہے۔ حضرت مسلم کے دو فرزند محمد اور ابراہیم جو اپنے باپ کے بہت پیارے بیٹے تھے اس سفر میں اپنے پدر مشق کے ہمراہ ہوئے۔ حضرت مسلم نے کوفہ پہنچ کر محترم بن عبید کے مکان پر قیام فرمایا۔ آپ کی تشریف آوری کی خبر سن کر جو حق در جو حق متعلق آپ کی زیارت کو آئی اور بارہ ہزار سے زیادہ تعداد نے آپ کے دست مبارک پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔

حضرت مسلم نے عراق کی گردی میں عقیدت دیکھ کر حضرت امام کی جناب میں عریضہ لکھا جس میں یہاں کے حالات کی اطلاع دی اور اتماس کیا کہ ضرورت ہے کہ حضرت جلد تشریف لائیں تاکہ بندگان خدا ناپاک کے شر سے محفوظ رہیں اور دین حق کی تائید ہو مسلمان امام حق کی بیعت سے مشرف و فیض یاب ہو سکیں اہل کوفہ کا یہ جوش دیکھ کر حضرت نعمان بن بشیر صحابی نے جو اس زمانے میں حکومت شام کی جانب سے کوفہ کے والی (گورنر) تھے۔ اہل کوفہ کو مطلع کیا کہ یہ بیعت یزید کی مرضی کے خلاف ہے اور وہ اس پر بہت بھڑک کے گا لیکن اطلاع دے کر ضابطہ کی کارروائی پوری کر کے حضرت نعمان بن بشیر خاموش ہو بیٹھے اور اس معاملہ میں کسی قسم کی دست اندازی نہ کی۔

مسلم یزید حضری اور عمارہ بن ولید بن عقبہ نے یزید کو اطلاع دی کہ حضرت مسلم بن عقیل تشریف لائے ہیں اور اہل کوفہ میں ان کی محبت و عقیدت کا جوش و مہم بڑھ رہا ہے۔

ہزارہا آدمی ان کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر چکے ہیں اور نعمان بن بشیر نے اب تک کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں کی نہ انسدادی مدابیر میں لائے۔ یزید نے یہ اطلاع پاتے ہی نعمان بن بشیر کو معزول کیا اور عبد اللہ بن زیاد بہت مکار و کیا دھما۔ وہ بصرہ سے روانہ ہوا اور اس نے اپنی فوج کو قادیہ میں چھوڑا اور خود جازیوں کا لباس پہن کر اونٹ پر سوار ہوا اور چند آدمی ہمراہ لے کر شب کی تاریکی میں مغرب وعشاء کے درمیان اس راہ سے کوفہ میں داخل ہوا جس سے جازی قافلے آیا کرتے تھے اس مکاری سے اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت اہل کوفہ میں بہت جوش ہے۔ ایسے دور پر داخل ہونا چاہیے کہ وہ ابن زیاد کو نہ پہچانیں۔ اور یہ سمجھیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے تاکہ وہ بے خطر اور اندریشہ اسکن و عافیت کے ساتھ کوفہ میں داخل ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اہل کوفہ جن کو ہر لمحہ حضرت امام عالی مقام کی تشریف آوری کا انتظار تھا۔ انہوں نے دھوکہ کھایا اور شب کی تاریکی میں جازی لباس اور جازی راہ سے آتا دیکھ کر سمجھے کہ حضرت امام تشریف لے آئے نہ رہا یہ صرفت بلند کئے۔ گرد و پیش مر جا کہتے چلے مر جا بلکہ یا ابن رسول اللہ اور قدامت خیر مقدم کا شور چا۔ یہ مردو ددل میں تو جلتا رہا اور اس نے اندازہ کر لیا کہ کوئی نہیں کو حضرت امام کی تشریف آوری کا انتظار ہے۔ اور ان کے دل ان کی طرف مائل ہیں مگر اس وقت کی مصلحت سے خاموش رہتا کہ ان پر اس کا مکرہ کھل جائے۔ یہاں تک کہ دارالامارة (گورنمنٹ ہاؤس) میں داخل ہو گیا۔ اس وقت کوئی یہ سمجھے کہ حضرت نہ تھے بلکہ ابن زیاد اس فریب کاری کے ساتھ آیا۔ اور انہیں حسرت و مایوسی ہوئی۔ رات گزر کو صحیح کوابن زیاد نے اہل کوفہ کو جمع کیا اور حکومت کا پروانہ پڑھ کر انہیں سنایا اور یزید کی مخالفت سے ڈرایا دھکایا۔ طرح طرح کے جلوں سے حضرت مسلم کی جماعت کو منتشر کر دیا۔ حضرت مسلم نے ہانی بن عروہ کے مکان میں اقامت فرمائی۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کو ایک دست فوج کے ساتھ ہانی کے مکان پر بھیج کر اس کی گرفتاری کر امن گایا اور قید کر لیا۔ کوفہ کے تمام رو ساوے نمائندوں کو بھی قلعہ میں بند کر دیا۔ حضرت مسلم یہ خبر پا کر براہمد ہوئے اور آپ نے اپنے متولیوں کی ندائی۔ جو حق در

جوق آدمی آنے شروع ہو گئے اور چالیس ہزار کی جمیت نے آپ کے ساتھ قصر شاہی کا احاطہ کر لیا۔ صورت بن آئی تھی حملہ کرنے کی دیر تھی۔ اگر حضرت حملہ کرنے کا حکم دے دیتے تو اسی وقت قلعہ فتح پاتا اور ابن زیاد اس کے ہمراہی حضرت مسلم کے ہاتھ میں گرفتار ہوتے اور یہی لشکر سیلا ب کی طرح امنڈ کرشمیوں کو تاخت و تاران کردا تا اور یزید کو جان بچانے کے لئے کوئی راہ نہ ملتی۔ نقشہ تو یہی بجا تھا۔ مگر کار بہست کار کنان قد رست بندوں کا سوچا کیا ہوتا ہے۔ حضرت مسلم نے قلعہ کا احاطہ تو کر لیا اور ہا وجہ دی کہ کوئیوں کی بد عہدی اور ابن زیاد کی فریب کاری اور یزید کی عداوت پورے طور پر ثابت ہو چکی تھی۔ پھر بھی آپ نے اپنے لشکر کو حملہ کا حکم نہ دیا۔ اور ایک بادشاہ دادگستر کے نائب کی حیثیت سے آپ نے انتظار فرمایا کہ پہلے گفتگو سے قلعے جحت کر لیا جائے اور صلح کی صورت پیدا ہو سکے تو مسلمانوں میں خوزیری نہ ہونے دی جائے آپ اپنے اس پاک ارادہ سے انتظار میں رہے اور اپنی احتیاط کو ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ دشمن نے اس وقہ سے فائدہ اٹھایا اور کوفہ کے رو ساوے ملک جن کو ابن زیاد نے پہلے سے قلعہ میں بند کر لکھا تھا۔ انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور زیر اثر لوگوں کو مجبور کر کے حضرت مسلم کی جماعت سے عیuded کر دیں۔

یہ لوگ ابن زیاد کے ہاتھ میں قید تھے اور جانتے تھے کہ اگر ابن زیاد کو شکست بھی ہوئی تو وہ قلعہ فتح ہونے تک ان کا خاتمہ کر دے گا۔ اس خوف سے وہ گھبرا لٹھے اور انہوں نے دیوار قلعہ پر چڑھ کر اپنے متعلقین و متوسلین سے گفتگو کی اور انہیں حضرت مسلم کی رفاقت چھوڑ دیئے پر انتہا درج کا زور دیا اور بتایا کہ علاوه اس بات کے حکومت تھماری دشمن ہو جائے گی۔ یزید ناپاک طینت تھا رے پچھے کو قتل کر دا لے گا۔ تھا رے مال لٹوادے گا تھا ری جا گیریں اور مکان ضبط ہو جائیں گے یہ اور مصیبت ہے کہ اگر تم امام مسلم کے ساتھ رہ رہیں جو ابن زیاد کے ہاتھ میں قید ہیں قلعہ کے اندر مارے جائیں گے۔ اپنے انجام پر نظر ڈالو۔ ہمارے حال پر تم کرو۔ اپنے گھروں پر چلے جاؤ۔ یہ حیلہ کامیاب ہوا اور حضرت مسلم کا لشکر منتشر ہونے لگا۔ یہاں تک کہ تابوت شام حضرت مسلم نے مسجد کوفہ میں جس وقت مغرب کی نماز شروع کی تو آپ کے ساتھ پانچ سو آدمی تھے اور جب آپ نماز سے فارغ

ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک بھی نہ تھا۔ تینوں کے اظہار اور التجاذب کے طور سے جس عزیز مہمان کو بلا یا تھا اس کے ساتھ یہ دفا ہے کہ وہ تھا ہیں اور ان کی رفاقت کے لئے کوئی ایک بھی موجود نہیں۔ کوفہ والوں نے حضرت مسلم کو چھوڑنے سے پہلے غیرت و حیثیت سے قطع تعلق کیا۔ اور انہیں ذرا پرواہ نہ ہوئی کہ قیامت تک تمام عالم میں ان کی بیہقی کا شہرہ رہے گا۔ اور اس بزرگدانہ بے مردی اور نارمردی سے وہ رسولے عالم ہوں گے۔ حضرت مسلم اس غربت و سافرت میں تھا رہے گے کہ در جائیں۔ کہاں قیام کریں۔ حیرت ہے کوفہ کے تمام مہمان خانوں کے دروازے مغلل تھے۔ جہاں سے ایسے محترم مہمانوں کو مدعا کرنے رسیں و رسائل کا تاثنا باندھ دیا گیا تھا۔ نادان بچے ساتھ ہیں۔ کہاں انہیں لٹائیں کہاں سلا تکیں۔ کوفہ کے وسیع خطہ میں دو چار گزر میں حضرت مسلم کے شب گزارنے کے لئے نظر نہیں آتی۔ اس وقت مسلم کو امام حسین کی یاد آتی ہے اور دل تراپادیتی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ میں نے امام کی جذاب میں خطا کھا۔ تعریف آوری کی التجا کی ہے۔ اور اس بعد عہد قوم کے اخلاص و عقیدت کا ایک دل کش نقشہ امام عالی مقام کے حضور پیش کیا ہے اور تشریف آوری پر زور دیا ہے یقیناً حضرت امام میری التجا و نہ فرمائیں گے اور یہاں کے حالات سے مطمئن ہو کر مع اہل و میال چل پڑیں گے۔ یہاں انہیں کیا مصائب پہنچیں گے۔ اور چجن زہرا کے جنہی پھولوں کو اس بے مہری کی تپش کیسے گزند پہنچائے گی۔ یہم الگ دل کو گھائل کر رہا تھا اور اپنی تحریر پر شرمندگی و انفعال اور حضرت امام کے لئے خطرات علیحدہ بے چین کر رہے تھے۔ اور موجودہ پریشانی جداد امن گیرتی ہے۔

اسی حالات میں حضرت مسلم کو پیاس معلوم ہوئی۔ ایک گھر سامنے نظر پہنچا جاں طوم نامی ایک عورت موجود تھی اس سے پانی مانگا۔ اس نے پیچاں کر پانی دیا۔ اور اپنی سعادت بھی کر آپ کو اپنے مکان میں فرد کش کیا۔ اس عورت کا بیٹا محمد ابن الحیث کا گرگا تھا۔ انکے نے فوراً ہی اس کو نببردی۔ اور اس نے ابن زیاد کو اس طرح پر مطلع کیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن حربیث (کوتاں کوفہ) اور محمد بن الحیث کو بھیجا اور ان دونوں نے ایک جماعت ساتھ لے کر طومر کے گھر کا احاطہ کیا اور چاہا کہ حضرت مسلم کو گرفتار کر لیں۔ حضرت مسلم اپنی تکوar

کوئی ان نادانوں پر حرم کرنے والا نہ تھا۔ ستم گاروں نے ان نونہالوں کو بھی تبغیث ستم سے شہید کیا۔ اور ہانی کو قتل کر کے سولی پر چڑھایا۔ ان تمام شہیدوں کے سر نیزوں پر چڑھا کر کوفہ کے گلی کو چوں میں پھرائے گئے اور بے حیائی کے ساتھ کوفیوں نے اپنی سنگ دلی اور مہمان کشی کا عملی طور پر اعلان کیا۔ یہ واقعہ ۳ ذی الحجه ۱۴۰۲ھ کا ہے۔ اسی روز مکہ کرمہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فی کی طرف روانہ ہوئے۔

آپ کے ہمراہ اس وقت سطورِ ذیل حضرات تھیں فرزند حضرت امام علی اور طحن کو امام زین العابدین کہتے ہیں جو حضرت شہر بن نویر و جودین خسر و پوربین بن ہرم بن نویر و اس کے سلطن سے ہیں ان کی عمر وفات ۶۸ سال کی تھی اور مریض تھے۔ حضرت امام کے دورے صاحبزادے حضرت علی اکبر جو بعلی بنت ابی مرہ بن عروہ بن سعوڈ نقیق سلطن سے ہیں جن کی عمر اخادر سال کی تھی (یہ شریک جنگ ہو کر شہید ہوئے) تیرے شیر خوار جنہیں مل ہصر کئے ہیں جن کا نام عبد اللہ اور حضرت میم بتایا گیا ہے اس نام میں اختلاف ہے آپ کی والدہ قبیلہ میں تھام سے ہیں اور ایک صاحبزادی جن کا نام سکھیا ہے اور جن کی نسبت حضرت قاسم کے ساتھ ہوئی تھی اور اس وقت آپ کی عمر سات سال کی تھی کہ بلا میں ان کا لکھا ہونے کی روایت ہے۔ وہ غلط ہے اس کی کچھ اصل نہیں اور کہا یا کہ تم مغل لوگوں نے پیدا ہوتے وفیع کی ہے۔ جنہیں اتنی بھی تمیز نہیں کہ وہ یہ سمجھ سکتے کہ الہ بیت رسالت کے لئے وہ وقت لمحہ الہ اور ہوشی شہادت اور اقسام جلت کا قاتا۔ اس وقت شادی کا کام کی طرف التفات ہوتا ہی ان حالات کے منانی ہے۔ حضرت مکہمی کی وفات بھی راہ شام میں مشہور کی جاتی ہے یہ بھی خلف ہے بلکہ وہ واقعہ کہ ہمراہ کے بعد عمر تک جنات رہیں اور ان کا لکھ حضرت مصعب بن زیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ حضرت سکینہ کی والدہ امراء الہمیں اہن عدی کی رفتری قبیلہ میں کلب سے ہیں حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ازواج میں سب سے زیادہ ان کے ساتھ مجتبی تھی۔ اور ان کا بہت زیادہ اکرام و احترام فرماتے تھے حضرت امام کا ایک شعر ہے:

لعمرى اتنی لا حب ارضًا تحل بها سكينة والرباب

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام علی مقام کو حضرت سکینہ اور ان کی والدہ ماجدہ سے کس قدر محبت تھی حضرت امام کی بوی صاحبزادی حضرت فاطمہ صفری جو حضرت امام احراق بنت حضرت طلحہ کے سلطن سے ہیں اپنے شوہر حضرت حسن بن شیعی بن حضرت امام حسن ایں حضرت علی مرقی (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) کے ساتھ مدینہ طیبہ میں رہیں کہا تشریف نہ لائیں۔ امام کے ازواج میں حضرت امام کے ساتھ شہر بانو اور حضرت علی اصغری والدہ تھیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے چاروں جوان فرزند حضرت قاسم حضرت عبد اللہ حضرت عزیز حضرت ابو بکر امام کے ہمراہ تھے اور کہ بلا میں شہید ہوئے۔ حضرت مولا علی مرتفعی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے پانچ فرزند حضرت عباس ایں علی حضرت عبد اللہ ابن علی، حضرت محمد ابن علی حضرت عفرا بن حضرت عثمان ایں علی حضرت امام کے ہمراہ تھے۔ سب نے شہادت پائی۔ حضرت عقیل کے فرزندوں میں حضرت مسلم تو حضرت امام کے کہ بلا بیٹھنے سے پہلے ہی اخپنے دو صاحبزادوں محمد و ابراہیم کے شہید ہو چکے اور تین فرزند حضرت عبد اللہ و حضرت عبد الرحمن و حضرت جعفر برادران حضرت مسلم امام کے ہمراہ کہ بلا حاضر ہو کر شہید ہوئے۔ (باتی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

لے کر نکلے اور بنا چاری آپ نے ان ظالموں سے مقابلہ شروع کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت مسلم اس جماعت پر اس طرح ٹوٹ پڑے جیسے شیر ببر گلہ گوپنڈ پر حملہ آور ہو۔ آپ کے شیرانہ حملوں سے دل آوروں نے دل چھوڑ دیئے اور بہت آدمی زخمی ہو گئے۔ بعض مارے گئے معلوم ہوا کہ بنی ہاشم کے اس ایک جوان سے نامدار ان کو فی کی یہ جماعت نبرد آذانیں ہو سکتی۔ اب یہ تجویز کہ کوئی چال چلنے چاہیے اور کسی فریب سے حضرت مسلم پر قابو پانے کی کوشش کی جائے۔ یہ سوچ کر امن و صلح کا اعلان کر دیا۔ اور حضرت مسلم سے عرض کیا کہ ہمارے آپ کے درمیان جنگ کی ضرورت نہیں۔ نہ ہم آپ سے لڑنا چاہتے ہیں۔ مدعایا کے درمیان زیاد کے پاس تشریف لے جائیں اور اس سے گفتگو کر کے صرف اس قدر ہے کہ آپ این زیاد کے پاس تشریف لے جائیں اور اس سے گفتگو کر کے معاملہ طے کر لیں۔ حضرت مسلم نے فرمایا کہ میرا خود قصد جنگ نہیں اوز جس وقت میرے ساتھ چالیں ہزار کا شکر تھا اس وقت بھی میں نے جنگ نہیں کی اور میں انتظار کرتا رہا کہ این زیاد گفتگو کے کوئی خلل مصالحت پیدا کرے تو خوزیری نہ ہو۔

چنانچہ یہ لوگ حضرت مسلم کو مع ان کے دونوں صاحبزادوں کے عبد اللہ ابن زیاد کے پاس لے کر روانہ ہوئے۔ اس بد بخت نے پہلے ہی سے دروازہ کے دونوں پہلوؤں میں اندر کی جانب تبغیث زدن چھپا کر کھڑے کر دیئے تھے اور انہیں حکم دے دیا تھا کہ حضرت مسلم دروازہ میں داخل ہوں ایک دم دونوں طرف سے ان پر وار کیا جائے۔ حضرت مسلم کو اسکی کیا خبر تھی۔ اور آپ اس مکاری اور کیادی سے کیا وااقف تھے۔ آپ آپ یہ کہہ دہنا الفتح بینا و بین قومنا بالحق الایت پڑھتے ہوئے دروازے میں داخل ہوئے۔ داخل ہونا تھا کہ اس قیامے دنوں طرف سے تکاروں کے دارکے اور بنی ہاشم کا مظلوم مسافر اعداء دین کی بے رحمی سے شہید ہوا۔ انا اللہ وانا الیه راجعون۔

دونوں صاحبزادے آپ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے اس بیکسی کی حالت میں اپنے شفیق والد کاسران کے مبارک تن سے جدا ہوتے دیکھا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل غم سے پھٹ گئے اور اس صدمہ میں وہ بیدکی طرح لرزنے اور کاپنے لگے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کو دیکھتا تھا اور ان کی سر گلیں آنکھوں میں خونی اشک جاری تھے لیکن اس معركہ ستم میں

حضرت امام عالی مقام کی کوفہ کور وا نگی

حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط آنے کے بعد حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں کی درخواست قبول فرمائے میں کوئی وجہ تال و جائے عذر ہاتی نہیں رہتی تھی ظاہری شکل تو یہ تھی اور حقیقت میں قضا و قدر کے فرمان نافذ ہو چکے تھے۔ شہادت کا وقت نزدیک آپ کا تھا۔ جذب شوق دل کو ٹھیک رہا تھا۔ فدا کاری کے ولیوں نے دل کو بے تاب کر دیا تھا۔ حضرت امام نے سفر عراق کا ارادہ فرمایا اور اسیاب سفر درست ہونے لگا۔ نیاز مندان صادق العقیدت کو اطلاع ہوئی اگرچہ ظاہر کوئی خوف صورت پیش نظر نہ تھی اور حضرت مسلم کے خط سے کوفیوں کی عقیدت واردات اور ہزارہا آدمیوں کے حلقہ بیت میں داخل ہونے کی اطلاع عمل چکی تھی عذر اور جنگ کا بظاہر کوئی قرینہ نہ تھا۔

لیکن صحابہ کے دل اس وقت حضرت امام کے سفر کو کسی طرح گوارا نہ کرتے تھے۔ اور وہ حضرت امام سے اصرار کر رہے تھے کہ آپ اس سفر کو ملتوی فرمائیں مگر حضرت امام ان کی یہ استدعا قبول فرمائے میں سے مجبور تھے کیونکہ آپ کو خیال تھا کہ کوفیوں کی اتنی بڑی جماعت کا اس قدر اصرار اور ایسی التجاویں کے ساتھ عرض داشتیں پیرینہ فرمان اہل بیت کے اخلاق کے شایان نہیں۔ اس کے علاوہ حضرت مسلم کے ملتنے پر اہل کوفہ کی طرف سے کوئی کوتاہی نہ ہونا اور امام کی بیعت کے لئے شوق سے ہاتھ پھیلایا اور ہزاروں کوفیوں کا داخل حلقہ غلامی ہو جانا۔ اس پر بھی حضرت امام کا ان کی طرف سے اعراض فرمانا اور ان کی ایسی التجاویں کو جو محض پاس داری کے لئے ہیں ٹھکرایا اور اس مسلمان قوم کی دل ٹھکنی کرنا حضرت امام کو کسی طرح گوارانہ ہوا۔ اور حضرت مسلم جیسے صفا کیش کی استدعا کو بےاتفاق کی نظر سے دیکھنا اور ان کی

(ایقی حاشیہ) حضرت جعفر طیار کے دوپتے حضرت محمد اور حضرت مون حضرت امام کے ہمراہ حاضر ہو کر شہید ہونے کے والد کا نام عبد اللہ بن جعفر ہے۔ اور حضرت امام کے حقیقی بھائی ہیں۔ ان کی والدہ حضرت زینب حضرت امام کی حقیقی بیٹی ہیں۔ صاحبزادگان اہل بیت میں سے سترہ حضرات حضرت کے ہمراہ حاضر ہو کر رتبہ شہادت کو پہنچے اور حضرت امام زین العابدین (بیمار) اور محمد بن حسن اور محمد بن عمر بن علی اور دوسرے صبر اس صاحبزادے قیدی ہائے گئے حضرت زینب حضرت امام کی حقیقی بیٹی ہمیرہ اور شہر پا نو حضرت امام کی زوجہ اور حضرت سیکنہ حضرت امام کی دختر اور دوسری اہل بیت کی بیٹیاں ہمراہ تھیں۔ ۱۲

درخواست تشریف آوری کو در فرمانا بھی حضرت امام پر بہت شاق تھا۔ یہ وہ تھے جنہوں نے امام کو سفر عراق پر مجبور کیا اور آپ کو اپنے جمازی عقیدت مندوں سے معدرت کرنا پڑی۔

حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت جابر، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو والدیش اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ کو روکنے میں بہت مصروف تھے اور آخوندگی کو کوشش کرتے رہے کہ آپ مکہ کرمه سے تشریف نہ لے جائیں۔ لیکن یہ کوشش کار آمد نہ ہوئی اور حضرت امام عالی مقام نے ۳ ذی الحجه ۶۰ھ کو اپنے اہل بیت موالی و خدام کل ہیاسی نفوں کو ہمراہ لے کر راہ عراق اختیار کی۔ مکہ کرمه سے اہل بیت رسالت کا یہ چھوٹا سا قائلہ روانہ ہوتا ہے۔ اور دنیا سے سفر کرنے والے بیت اللہ حرام کا آخری طواف کر کے خاہ کعبہ کے پردوں سے پٹ پٹ کروتے ہیں۔ ان کی گرم آہوں اور دل ہلاکیوں والے نالوں نے مکہ کرمه کے ہاشمیوں کو مغموم کر دیا۔ مکہ کرمه کا پچھہ بچہ اہل بیت لے اس قائلے کو حرم شریف سے رخصت ہوتا دیکھ کر آبدیدہ اور مغموم ہورہا تھا مکہ کرمه جانبازوں کے میر لشکر اور فدا کاروں کے قائلہ سالار مردانہ ہمت کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اثناء راہ میں ذات عرق کے مقام پر بیشرا بن غالب اسدی یہ عزم کہ مکہ کوفہ سے آتے ملے۔

حضرت امام نے ان سے اہل عراق کا حال دریافت کیا۔ عرض کیا کہ ان کے قلوب آپ کے ساتھ ہیں اور تواریں بی بی امیر کے ساتھ۔ اور خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یافع اللہ مایشاء حضرت امام نے فرمایا سچ ہے۔ ایسی ہی گفتگو فرزوق شاعر سے ہوئی۔ بطن الرمه (نام مقاومے) سے روانہ ہونے کے بعد عبد اللہ بن مطیع سے ملاقات ہوئی۔ وہ حضرت امام کے بہت درپے ہوئے کہ آپ اس سفر کو ترک فرمائیں اور اس انہوں نے اندیشیے ظاہر کئے۔

حضرت امام نے فرمایا لئے یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا۔ ہمیں وہی مصیبت ہنچنے سکتی ہے جو خداوند عالم نے ہمارے لئے مقرر فرمادی۔ راہ میں حضرت امام عالی مقام کو کوفیوں کی بد عہدی اور حضرت مسلم کی شہادت کی خبر مل گئی۔ اس وقت آپ کی جماعت میں مختلف راہیں ہوئیں۔ اور ایک مرتبہ آپ نے بھی واپسی کا قصد ظاہر فرمایا لیکن بہت گفتگو یوں کے بعد رائے یہی قرار پائی کہ سفر جاری رکھا جائے اور واپسی کا خیال ترک کیا جائے۔

حضرت امام نے بھی اس مشورہ سے اتفاق کیا اور قافلہ آگے چل دیا۔ یہاں تک کہ جب کوفہ و منزل رہ گیا تب آپ کوہ بن زید ربانی ملاح کے ساتھ ابن زیاد کے ایک ہزار ہتھیار بند سوار تھے۔ حرنے حضرت امام کی جانب میں عرض کیا کہ اس کو ابن زیاد نے آپ کی طرف پہنچا ہے اور حکم دیا ہے کہ آپ کو اس کے پاس لے چلے۔ حرنے یہ بھی ظاہر کیا کہ وہ مجبورانہ بادل خواستہ آیا ہے اور اس کو آپ کی خدمت میں جرات بہت ناپسند و ناگوار ہے۔ حضرت امام نے حرس فرمایا کہ میں اس شہر میں خود خون دنے آیا بلکہ مجھے بلانے کے لئے کوفہ کے متواتر پیام گئے اور لگاتار نے پہنچتے رہے۔ اے اہل کوفہ! اگر تم اپنے عهد و بیعت پر قائم ہو اور تمہیں اپنی زبانوں کا کچھ پاس ہو تو تمہارے شہر میں داخل ہوں ورنہ پیہنیں سے واپس چلا جاؤ۔

حر کے دل میں خاندان نبوت اور اہل بیت کی عظمت ضرور تھی اور اس نے نمازوں میں حضرت امام ہی کی اقتداء کی یعنی وہ ابن زیاد کے حکم سے مجبور تھا اور اس کو یادیشہ بھی تھا کہ وہ اگر حضرت امام کے ساتھ کوئی مراعات کرے تو ابن زیاد پر یہ بات ظاہر ہو کر رہے گی کہ ہزار سوار ساتھ ہیں۔ ابی صورت میں کسی بات کا چھپانا ممکن نہیں۔ اور اگر ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ حضرت امام کے ساتھ دراہمی فرد گزشت کی گئی ہے تو وہ نہایت سختی کے ساتھ پیش آئے گا۔ اس یادیشہ اور خیال سے حر اپنی بات پر اڑا رہا۔ یہاں تک کہ حضرت امام کو کوفہ کی راہ سے ہٹ کر کربلا میں نزول فرمانا پڑا۔

یہ محرم ۱۱ھ کی دوسری تاریخ تھی۔ آپ نے اس مقام کا نام دریافت کیا۔ تو معلوم ہوا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ حضرت امام کربلا سے والقف تھے اور آپ کو معلوم تھا کہ کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت رسالت کو راحٰت میں اپنے خون کی ندیاں بھانی ہوں گی۔ آپ کو انہیں دونوں میں حضور سید عالم مصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی حضور علیہ الصلوٰۃ والعلیٰ علیہ الشفاعة نے آپ کو شہادت کی خبر دی اور آپ کے سینہ مبارک پر دست القدس رکھ کر دعا فرمائی۔ اللہ ہم اعطی الحسین صبراً و اجر اعجیب وقت ہے کہ سلطان دارین کے نور نظر کو صدہاتمناؤں سے مہماں بنا کر بلا یا ہے عرضیوں اور درخواستوں کے طومار لگا دیئے ہیں

قادروں اور پیامبوں کی روزمرہ ڈاک گگی ہے۔ اہل کوفہ راتوں کو اپنے مکانوں میں تغیریف آوری خواب میں دیکھتے ہیں۔ اور خوشی سے پھولنہیں ساتے۔ جماعتیں متوں تک صحیح سے شام تک ججاز کی سڑک پر بیٹھ کر امام کی آمد کا انتظار کیا کرتی ہیں اور شام کو بادل مغموم واپس جاتی ہیں۔ لیکن جب وہ کریم مہماں اپنے کرم سے ان کی زمین میں ورود فرماتا ہے تو انہی کو فیوں کا مسلح لشکر سامنے آتا ہے۔ اور نہ شہر میں داخل ہونے دیتا ہے نہ اپنے وطن ہی کو واپس تشریف لے جانے پر راضی ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اس معزز مہماں کو موضع اپنے اہل بیت کے کھلے میدان میں رخت اقامت ڈالنا پڑتا ہے۔ اور دشمنان ہیا کو غیرت نہیں آتی۔ دنیا میں ایسے معزز مہماں کے ساتھ ایسی بے چمیتی کا سلوک کبھی نہ ہوا ہو گا جو کوئیوں نے حضرت امام کے ساتھ کیا۔

یہاں تو ان مسافران بے وطن کا سامان بے ترتیب پڑا ہے اور ادھر ہزار سوار کا مسلح لشکر مقابل نیمہ زن ہے جو اپنے مہماں کو نیزوں کی نوکیں اور تکاروں کی دھاریں دکھار رہا ہے اور بجائے آداب میزہ بانی کے خونگواری پر ٹلا ہوا ہے۔ دریائے فرات کے قریب دونوں لشکروں میں سے کسی کو سیراب نہ کر۔ کہ امام کے لشکر کو تو اس کا ایک قطہ پہنچانا ہی مشکل ہو گیا۔ اور یہ زیدی لشکر جتنے آتے گئے ان سب کو بیت رسالت کے بے گناہ خون کی پیاس بڑھتی گئی آب فرات سے ان کی تشقیقی میں کوئی فرق نہ آیا۔ ابھی طیمناں سے میٹنے اور تکان دور کرنے کی صورت بھی نظر نہ آئی تھی کہ حضرت امام کی خدمت میں ابن زیاد کا ایک مکتوب پہنچا جس میں اس نے حضرت امام سے یہ یہ دنیاپاک کی بیعت طلب کی تھی۔ حضرت امام نے وہ خط پڑھ کر ڈال دیا اور قاصد سے کہا۔ میرے پاس اس کا کچھ جواب نہیں۔

ستم ہے بلا یا تو جاتا ہے خود بیعت ہونے کے لئے اور جب وہ کریم بادیہ پیائی کی مشقیں برداشت فرمائے کرتے ہیں تو ان کو یہ زید جیسے عجیب مجسم شخص کی بیعت پر مجبور کیا جاتا ہے۔ جس کی بیعت کو کوئی بھی واقع حال دیندار آدمی گوارا نہیں کر سکتا۔ نہ وہ بیعت کسی طرح جائز تھی امام کو ان بے حیاؤں کی اس جرأۃ پر حیرت تھی اور اسی لئے آپ نے فرمایا کہ میرے پاس اس کا کچھ جواب نہیں ہے۔ اس سے ابن زیاد کا طیش اور زیادہ ہو گیا۔ اور اس نے مزید عسا کرو افواج ترتیب دیئے۔ اور ان لشکروں کا پہ سالا عمر و بن سعد

کو بنایا جو اس زمانے میں ملک رے کا ولی (گورنر) تھا رے خراسان کا ایک شہر ہے جو آج کل ایران کا دارالسلطنت ہے۔ اور اس کو تہران کہتے ہیں۔

ستم شوال محرماں سب کے سب حضرت امام کی عظمت و فضیلت کو خوب جانتے پہچانتے تھے۔ اور آپ کی جلالت و مرتبت کا ہر دل معرف تھا۔ اس وجہ سے ابن سعد نے حضرت امام کے مقابلہ سے گریز کرنی چاہی اور پہلو تھی کی۔ وہ چاہتا تھا کہ حضرت امام کے خون سے وہ بچا رہے مگر ابن زیاد نے اسے مجرور کیا کہ اب وہی صورتیں ہیں یا تو رے کی حکومت سے دستبردار ہو ورنہ امام سے مقابلہ کیا جائے۔ دنیوی حکومت کے لامع نے اس کو اس جنگ پر آمادہ کر دیا۔ جس کو اس وقت وہ ناگوار سمجھتا تھا اور جس کے تصور سے اس کا دل کا اپنا تھا۔ آخر کار ابن سعد وہ تمام عسا کر و افواج لے کر حضرت امام کے مقابلہ کے لئے روانہ ہوا اور ابن زیاد بن نہاد قیم و متواتر تک پر کمک سمجھتا رہا۔ یہاں تک کہ عمرو بن سعد کے پاس باکیں ہزار سوار و پیادہ جمع ہو گئے اور اس نے اس جمیعت کے ساتھ کربلا میں پہنچ کر فرات کے کنارے پر آؤ کیا اور اپنا نام کر قائم کیا۔

حیرت ناک بات ہے اور دنیا کی کسی جنگ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ کل بیانی تو آدمی ہیں ان میں یہاں بھی پچے بھی، یہاں بھی پھر وہ بھی ہمارا دھنگ نہیں آئے تھے۔ اور اتفاق حرب کافی نہ رکھتے تھے ان کے لئے باکیں ہزار کی جرار فوج پہنچی جائے آخروہ ان یا اسی نفسوں کو اپنے خیال میں کیا سمجھتے تھے اور ان کی جماعت و بسالت کے کیسے کیسے مناظر ان کی آنکھوں نے دیکھے تھے کہ اس چھوٹی سی جماعت کے لئے وہ کمی چوکی ذہنی ڈس گنی تو کیا سوگنی تعداد کو بھی کافی نہ سمجھا۔ بے اندازہ لشکر پہنچ دیے۔ فوجوں کے پہاڑ اگاڑا اس پر بھی خوف زدہ ہیں۔ اور جنگ آزماؤں دلاوروں کے حوصلے پست ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شیران حق کے جملے کی تاب لانا مشکل ہے۔ مجبوراً یہ تدبیر کرنا پڑی کہ لشکر امام پر پانی بند کیا جائے پیاس کی شدت اور گرمی کی حدت سے قوی مصلح ہو جائیں ضعف انتہا کو پہنچ چکے تب جنگ شروع کی جائے

وہ ریگ گرم اور وہ دھوپ اور وہ پیاس کی شدت

کریں صبر و تحمل میر کوثر ایسے ہوتے ہیں

اہل بیت کرام پر پانی بند کرنے اور ان کے خونوں کے دریا بھانے کے لئے بے غیرتی

سے سامنے آنے والوں میں زیادہ تعداد انہیں بے حیاؤں کی تھی جنہوں نے حضرت امام کو صد ہار خدا تین بیچج کر بدلایا تھا۔ اور مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حضرت امام کی بیعت کی تھی مگر آج دشمنان حمیت و غیرت کو نہ اپنے عہدو بیت کا پاس تھا نہ اپنی دعوت و میزبانی کا لاحاظ فرات کا بے حساب پانی ان سیاہ باطنوں نے خاندان رسالت پر بند کر دیا تھا۔ الہمیت کے چھوٹے چھوٹے خود سال فاطمی چن کے نونہال خنک لب تشنہ دہان تھے نادان بچے ایک ایک قطرہ کے لئے ترپ رہے تھے۔ نور کی تصویریں پیاس کی شدت میں دم توڑ رہی تھیں۔ بیماروں کے لئے دریا کا کنارہ بیباں بنا ہوا تھا۔ آں رسول کو لب آب میسر نہ آتا تھا۔ سرچشمہ (ثیتم) سے نمازیں پڑھنی پڑتی تھیں۔ اس طرح بے آب و دان تین دن گزر گئے چھوٹے چھوٹے اور پہاں سب بھوک و پیاس سے بے تاب و توہاں ہو گئے۔ اس معزکہ ظلم و تم میں اگر رقم بھی ہوتا تو اس کے حوصلے پست ہو جاتے اور سر نیاز جھکا دیتا مگر فرزندان رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کو مصائب کا ہجوم جکہ سے نہ ہٹا سکا۔ اور ان کے عزم و استقلال میں فرق ن آیا۔ حق و مدد اقت کا حامی مصیبتوں کا بھیاں بک گھٹاؤں سے نہ ڈرا۔ اور طوفان بلا کے سیلاں بے اس کے پائے ثابت میں جنش نہ ہوئی۔ دین کا شیدائی دنیا کی آنفوں کو خیال میں نہ لایا۔ دس محرم تک بھی بحث رہی کہ حضرت امام یزید کی بیعت کر لیں۔ اگر آپ یزید کی بیعت کرتے تو وہ تمام لشکر آپ کے جلو میں ہوتا۔ آپ کا کمال احترام کیا جاتا تھا۔ خزانوں کے منہ کھول دیئے جاتے اور دولت دنیا قدموں پر لٹاوی جاتی مگر جس کا دل حب دنیا سے خالی ہوا اور دنیا کی بے ثباتی کا راز جس پر منکشف ہو وہ اس طسم پر کب منقوں ہوتا ہے۔ جس آنکھ نے حقیقی حسن کے جلوے دیکھے ہوں وہ نمائشی رنگ و روپ پر کیا نظر ڈالے۔

حضرت امام نے راحت دنیا کے منہ پر ٹھوکر مار دی، اور وہ راہ حق میں پہنچنے والی مصیبتوں کا خوش دلی سے خیر مقدم کیا اور باوجود وہ اس قدر آنفوں اور بادوں کے ناجائز بیعت کا خیال اپنے قلب مبارک میں نہ آنے دیا۔ اور مسلمانوں کی تباہی و بر بادی کو اران فرمائی۔ اپنے گھر لٹانا اور اپنے خون بہانا منتظر کیا مگر اسلام کی عزت میں فرق آنابرداشت نہ ہو سکا۔

{۸۵}

سوانح کربلا

موجود جنگ کا نقارہ بجادیا گیا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند اور فاطمہ زہرا کے جگر بن کو مہمان ہنا کر بلانے والی قوم نے جانوں پر کھینے کی دعوت دی۔

حضرت امام نے عرصہ کارزار میں تشریف فرمایا۔ ایک خطبہ فرمایا جس میں بیان فرمایا کہ
”خون ناحتر حرام اور غضب الہی کا موجب ہے۔ میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ تم اس
گناہ میں بیٹلانا ہو۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے کسی کا گھر نہیں جلایا۔ کسی پر حملہ
آور نہیں ہوا۔ اگر تم اپنے شہر میں میرا آئائیں چاہتے ہو تو مجھے واپس جانے دو۔
تم سے کسی چیز کا طلبگار نہیں۔ تمہارے درپے آزاد نہیں۔ تم کیوں میری جان
کے درپے ہو۔ اور تم کس طرح میرے خون کے لام سے بری ہو سکتے ہو۔ روز
محشر تھا رے پاس میرے خون کا کیا جواب ہو گا۔ اپنا انعام سوچو اور اپنی عاقبت
پر نظر ڈالو۔ پھر یہ بھی سمجھو کر میں کون اور بارگاہ رسالت میں کس چشم کرم کا منظور
نظر ہوں۔ میرے والد کوں ہیں اور میری والدہ کس کی لخت جگر ہیں۔ میں انہیں
بتول و زہرا کا نور دیدہ ہوں جن کے میل صراط پر گزرتے وقت عرش سے ندا کی
جائے گی کہ اے اہل محشر اسر جھکاؤ اور آنکھیں بند کرو کہ حضرت خاتون جنت
پل صراط سے ستر ہزار حوروں کو رکاب سعادت میں لے کر گزرنے والی ہیں۔
میں وہی ہوں جس کی محبت کو سرور عالم علیہ السلام نے اپنی محبت فرمایا ہے۔
میرے فضائل تمہیں خوب معلوم ہیں۔ میرے حق میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں
اس سے تم بے خبر نہیں ہوں۔“

اس کا جواب یہ دیا گیا کہ آپ کے تمام فضائل ہمیں معلوم ہیں مگر اس وقت یہ مسئلہ ذیر
بحث نہیں ہے۔ آپ جنگ کے لئے کسی کو میدان میں بھیجئے اور لکھتمہم فرمائیے۔

حضرت امام نے فرمایا کہ
”میں جھیٹ فتح کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس جنگ کو دفع کرنے کی تدبیر میں سے میری
طرف سے کوئی تدبیر نہ رہ جائے اور جب تم مجبور کرنے ہو تو بھجو ری و ناچاری
بھجو کر توار اٹھانا ہی پڑے گی۔“
ہنوز گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ گروہ اعداء میں سے ایک شخص گھوڑا دوڑا کر سامنے آیا

دو سویں محرم

۶۱ ہجری کے دلدوڑ واقعات

جس کی طرح مشکل مصالحت پیدا نہ ہوئی اور کسی شکل سے جما شعار قوم مصلح کی طرف
مالک نہ ہوئی اور تمام صورتیں ان کے سامنے پیش کردی گئیں۔ لیکن تشکان خون اہل بیت کسی
بات پر راضی نہ ہوئے۔ اور حضرت امام کو یقین ہو گیا کہ اب کوئی شکل اخلاص کی باقی نہیں
ہے۔ نہ یہ شہر میں داخل ہونے دیتے ہیں نہ واپس جانے دیتے ہیں نہ ملک چھوڑنے پر ان کو
تلی ہوتی ہے۔ وہ جان کے خواہاں ہیں اور اب اس جنگ کو دفع کرنے کا کوئی طریقہ باقی نہ
رہا۔ اس وقت حضرت امام نے اپنے قیام گاہ کے گرد ایک خندق کھونے کا حکم دیا۔ خندق
کھوڈی گئی اور اس کی صرف ایک راہ رکھی گئی جہاں سے نکل کر دشمنوں سے مقابلہ کیا جائے۔
خندق میں آگ جلا دی گئی تاکہ اہل خیمه دشمنوں کی ایذا سے محفوظ رہیں۔

دو سویں محرم کا تیام نہادن آیا۔ جمعہ کی صبح حضرت امام نے اپنے تمام رفقاء اہل بیت
کے ساتھ فجر کے وقت اپنی عمر کی آخری نماز باجماعت نہایت ذوق و شوق تصرع و خشوع کے
ساتھ ادا فرمائی۔ پیشانیوں نے سجدوں میں خوب مرے لئے۔ زبانوں نے قرات و
تبیجات کے لطف اٹھائے۔ نماز سے فراغ کے بعد خیمه میں تشریف لائے۔ دو سویں محرم کا
آن قریب طلوع ہے۔ امام عالی مقام اور ائمہ تمام رفقاء اہل بیت تین دن کے بھوکے
پیاسے ہیں، ایک قطرہ آب میر نہیں آیا اور ایک لقہ حلق سے نہیں اترتا۔ بھوک پیاس سے
جس قدر رضع و ناتوانی کا غالباً ہو جاتا ہے اس کا لوگ کچھ اندازہ کر سکتے ہیں جنہیں کبھی دو
تین وقت کے فاقہ کی نوبت آئی ہو۔ پھر بے طلنی، تیز دھوپ، گرم ریت، گرم ہوا نہیں، انہوں
نے ناز پرور دگان آغوش رسالت کو کیسا پڑ مردہ کر دیا ہو گا۔ ان غربیان وطن پر جور و جفا کے
پھاڑ توڑنے کے لئے باکیں ہزار فوج اور تازہ دشمنی تیر و تریخ و سنان سے مسلح صفائی باندھے

(جس کا نام مالک بن عروہ تھا) جب اس نے دیکھا کہ شکر امام کے گرد خندق میں آگ جل رہی ہے اور شعلے بلند ہو رہے ہیں اور اس تدبر سے اہل خیمہ کی حفاظت کی جاتی ہے تو اس گستاخ بدظن نے حضرت امام سے کہا کہ اے حسین تم نے دہان کی آگ سے پہلے بھیں آگ لگادی۔ حضرت امام عالی مقام علی جده علیہ السلام نے فرمایا کہ ذلت یا عدو اللہ اے اللہ دشمن خدا تو کاذب ہے۔ تجھے گمان ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا۔

مسلم بن عوجہ کو مالک بن عروہ کا یہ کلمہ بہت ناگوار ہوا۔ انہوں نے حضرت امام سے اس بذریان کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت چاہی۔ صبر و تحمل اور تقویٰ اور راست بازی اور عدالت و انصاف کا ایک عدیم المثال مثال منظر ہے کہ ایسی حالت میں جب جنگ کے لئے مجبور کئے گئے تھے۔ خون کے پیاسے تلواریں کھینچنے ہوئے جان کے خواہ تھے بے باکوں نے کمال بے ادبی و گستاخی سے ایسا کلمہ کہا اور ایک جان ثار اس کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت چاہتا ہے تو اس وقت اپنے جذبات قبھے میں میں طیش نہیں آتا۔ فرماتے ہیں کہ خبردار میری طرف سے کوئی جنگ کی ابتداء نہ کرے تاکہ اس خوزیری کا وبا اعداء ہتھی کی گردن پر رہے۔ اور ہمارا دامن اقدام سے آلوہ نہ ہو لیکن تیرے جراحت قلب کا مرہم بھی میرے پاس ہے۔ اور تیرے سوز جگر کی شفی کی بھی تدبر رکھتا ہوں، اب تو دیکھنے یہ فرماد کر دست و عادراز فرمائے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ یارب عذاب نار سے قبل اس گستاخ کو دنیا میں آتش عذاب میں بٹلا کر۔ امام کا ہاتھ اٹھانا تھا کہ اس کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں گیا اور وہ گھوڑے سے گرا اور اس کا پاؤں رکاب میں الجھا اور گھوڑا اسے لے کر بجا گا اور آگ کی خندق میں ڈال دیا۔

حضرت امام نے بجہہ شکر کیا اور اپنے پروردگار کی حمد و شکر کی اور فرمایا:

"اے پروردگار تیر اشکر ہے کہ تو نے اہل بیت رسالت کے بد خواہ کو سزا دی"

حضرت امام کی زبان سے یہ کلمہ سن کر صرف اعداء میں سے ایک اور بے باک نے کہا کہ آپ کو پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا نسبت؟ یہ کلمہ تو امام کے لئے بہت تکلیف وہ تھا۔ آپ نے اس کے لئے بھی بدعا فرمائی اور عرض کیا یا ارب اس بذریان کو فوری عذاب میں گرفتار کر۔ امام نے یہ دعا اور اس کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی گھوڑے سے اتر

کہ ایک طرف بجا گا اور کسی جگہ قضائے حاجت کے لئے بہرہ ہو کر بیٹھا۔ ایک سیاہ پچھوٹنے ڈکنے مارا تو نجاست آلوہ تڑپتا پھرتا تھا۔ اس روائی کے ساتھ تمام لٹکر کے سامنے اس ناپاک کی جان لکھی مگر سخت دلان بے جمیت کو غیرت نہ ہوئی۔

ایک شخص مزنی نے امام کے سامنے آ کر کہا کہ:
”اے امام دیکھو تو دریائے فرات کیسے موچیں مار رہا ہے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں
تمہیں اس کا ایک قطرہ نہ ملے گا۔ اور تم پیاسے ہلاک ہو جاؤ گے“
حضرت امام نے اس کے حق میں فرمایا:

اللهم امنه عطشانا

ہارب اس کو پیاسا مار

امام کا یہ فرمانا تھا کہ مرنی کا گھوڑا اچکا، مرنی گرا، گھوڑا بجا گا اور مزنی اس کے پکڑنے کے لئے اس کے پیچے دوڑا اور پیاس اس پر غالب آئی۔ اس شدت کی غالب ہوئی کہ العطش العطش پکارتا تھا اور دب پانی اس کے منہ سے لگاتے تھے تو ایک قطرہ نہ پی سکتا تھا یہاں تک اسی شدت پیاس میں مر گیا۔

فرزند رسول کو نیہ بات بھی دکھاندی تھی کہ اس کی مقبولیت بارگاہ حق پر اور ان کے قرب و منزلت پر جیسی کہ نصوص کثیرہ و احادیث شہیرہ شاہد میں ایسے ہی ان کے خوارق و کرامات بھی گواہ ہیں۔ اپنے اس فضل کا عملی اظہار بھی اتمام جنت کے سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ اگر تم آنکھ رکھتے ہو تو دیکھو کہ جو ایسا مسجیب الدعوات ہے اس کے مقابلہ میں آنا خدا سے ہے۔ نک کرنا ہے۔ اس کا انجام سوچ لو اور باز رہو مگر شرارت کے مجسے اس سے بھی سبق نہ لے سکے اور دنیا نے ناپائیدار کی حرص کا بھوت جوانی کے سروں پر سوار تھا اس نے انہیں اندازنا دیا۔ اور نیزے بار لٹکر اعداء سے نکل کر رجز خوانی کرتے ہوئے میدان میں آ کو دے اور تکبر و تمجید کے ساتھ اتراتے ہوئے گھوڑے دوڑا کر اور تھیمار چکا کر امام سے مبارز کے طالب ہوئے۔

حضرت امام اور امام کے خاندان کے نوبہاں شوق جانبازی میں سرشار تھے۔ انہوں نے میدان میں جانا چاہا۔ لیکن قریب کے گاؤں والے جہاں اس ہنگامے کی خبر پہنچی تھی وہاں

کے مسلمان بے تاب ہو کر حاضر خدمت ہو گئے تھے انہوں نے اصرار کئے حضرت کے درپے ہو گئے جب تک ان میں سے ایک بھی زندہ ہے خاندان اہل بیت کا کوئی پچھے میدان میں نہ جائے۔ حضرت امام کو ان اخلاص کیوں کی سرفروشانہ التجا میں منظور فرمانا پڑیں۔ اور انہوں نے میدان میں پہنچ کر دشمنان اہل بیت سے چاعت و بسالت کے ساتھ مقابله کئے اور اپنی بہادری کے سکے جمادیے اور ایک ایک نے اعداء کی کثیر تعداد کو ہلاک کر کے راہ جنت اختیار کرنا شروع کی۔ اس طرح بہت سے جاندار فرزندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جائیں شارک گئے۔ ان صاحبوں کے اسماء اور ان کی جانبازیوں کے تفصیلی تذکرے سر کی کتابوں میں مسطور ہیں۔ یہاں اختصار اس تفصیل کو چھوڑ دیا گیا ہے۔

وہب ابن عبد اللہ الکلبی کا ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ بنی کلب کے زیباد نیک خوگرخ جوان تھے، اٹھتی جوانی اور عنقروانی شباب امکنوں کا وقت اور بہاروں کے دن تھے۔ صرف سترہ روز شادی کو ہوئے تھے اور ابھی بساط عشرت و نشاط گرم ہی تھی کہ آپ کے پاس آپ کی والدہ پہنچیں جو ایک یہودی عورت تھیں اور جن کی ساری کمائی اور گھر کا جراغ بھی ایک نوجوان بیٹا تھا۔ اس مشق میں نے پیارے بیٹے کو گلے میں باپیں ڈال کر دشمن شروع کر دیا۔ بیٹا حیرت میں آ کر ماں سے دریافت کرتا ہے کہ ماوراء مرخ و ملال کا سبب کیا ہے؟ میں نے اپنی عمر میں بھی آپ کی نافرمانی نہ کی نہ آئندہ کر سکتا ہوں۔ آپ کی اطاعت و فرمان برداری فرض ہے اور میں تابع زندگی مطیع و فرمابن بردار ہوں گا آپ کے دل کو کیا صدمہ پہنچا اور آپ کو کس غم نے رلایا۔ میری پیاری ماں میں آپ کے حکم پر جان فدا کرنے کو تیار ہوں آپ نہ ہوں۔

اکلوتے سعادت مند بیٹے کی یہ سعادت مندانہ گفتگوں کر ماں اور چینج مار کر رونے لگی۔ اور کہنے لگی اے فرزند و بند میری آنکھ کا نور دل کا سر و توہی ہے اور اے میرے گھر کے چراغ اور میرے باغ کے پھول میں نے اپنی جان گھلا گھلا کر تیری جوانی کی بہار پائی ہے۔ توہی میرے دل کا قرار ہے توہی میری جان کا چین ہے۔ ایک دم تیری جدائی اور ایک لمحہ تیر افراق مجھے برداشت نہیں ہو سکتی

چور خواب باشم توئی در خیام
چوبیدار گرم تو در ضمیر
اے جان مادر میں نے تجھے اپنا خون بکر پلا یا ہے۔ آج مصطفیٰ کا جگر گوشہ خاتون
جنت کا نونہال دشت کر بلایا میں بتلائے مصیبت و جفا ہے پیارے بیٹے کیا تجھے ہو سکتا ہے
کہ تو اپنا خون اس پر شارکرے۔ اور اپنی جان اس کے قدموں پر قربان کر ڈالے۔ اس بے
غیرت زندگی پر ہزارتف ہے کہ ہم زندہ رہیں اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لا ڈالا ظلم و
جفا کے ساتھ شہید کیا جائے اگر تجھے میری محنتیں کچھ یاد ہوں اور تیری پرورش میں جھنٹیں
میں نے اٹھائی ہیں ان کو تو بھولانہ ہوتا ہے میرے چین کے پھول تو صیئن کے سر پر صدقہ
ہو جا۔ وہب نے کہا اے مادر مہربانِ خوبی نصیب یہ جان شہزادہ کو نین پر فدا ہو جائے اور یہ
ناچیز ہدیہ وہ آقا قبول کر لیں۔ میں دل و جان سے آمادہ ہوں ایک لمحہ کی اجازت چاہتا ہوں
تاکہ اس بی بی سے دو باتیں کر لوں جس نے اپنی زندگی کے عیش و راحت کا سہرا میرے سر
باندھا ہے اور جس کے ارمان میرے سوا کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ اس کی حرتوں
کے ترپنے کا خیال ہے وہ اگر صبر نہ کر سکی تو میں اس کو اجازت دے دوں کہ وہ اپنی زندگی کو
جس طرح چاہے گزارے۔ ماں نے کہا بیٹا عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں مہادا تو اس کی
ہاتوں میں آ جائے اور یہ سعادت سرمدی تیرے ہاتھوں سے جاتی رہے۔

وہب نے کہا، پیاری ماں، امام حسین علی جده و علیہ السلام کی محبت کی گردہ دل میں ایسی
مضبوطگی ہے کہ اس کو کوئی کھول نہیں سکتا اور ان کی جان شماری کا نقش دل پر اس طرح
جاگزیں ہو اے بجود نیا کسی بھی پانی سے نہیں دھویا جا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر بی بی کی طرف آیا
اور اسے خبر دی کہ فرزند رسوی میدان کر بلایا میں بے یار و مددگار ہیں اور نداروں نے ان پر
زخم کیا ہے۔ میری قہنا ہے کہ ان پر جان شمار کروں یہ سن کر نہیں دہن نے امید بھرے دل سے
ایک آہ کہنچی اور کہنے لگی، اے میرے آرام جاں افسوس ہے کہ اس جنگ میں تیر اساتھ نہیں
دے سکتی۔ شریعت اسلام یہ نے عورتوں کو حرب کے لئے میدان میں آنے کی اجازت نہیں
دی ہے۔ افسوس اس سعادت میں میرا حصہ نہیں تیرے ساتھ میں بھی ان جان جہاں پر جان
قربان کروں۔ ابھی میں نے دل بھر کے تیر اچھہ بھی نہیں دیکھا ہے اور تو نے جنتی چمنستان کا

ارادہ کر دیا وہاں حوریں تیری خدمت کی آرزو مند ہوں گی۔ مجھ سے عہد کر جب سردار ان اہل بیت کے ساتھ جنت میں تیرے لئے بے شمار نعمتیں حاضر کی جائیں گی اور بہشتی حوریں تیری خدمت کے لئے حاضر ہوں۔ اس وقت تو مجھے نہ بھول جائے۔

یہ نوجوان اپنی اس نیک بی بی اور برگزیدہ ماں کو لے کر فرزند رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہن نے عرض کیا، ایا بن رسول اللہ اشہداء گھوڑے سے زمین پر گرتے ہی حوروں کی گود میں پہنچتے ہیں اور بہشتی حسین کمال اطاعت شعاراتی کے ساتھ ان کی خدمت کرتے ہیں۔ میرا یہ نوجوان شوہر حضور پر جان ثاری کی تمنا رکھتا ہے اور میں نہایت بے کس ہوئ نہ میری ماں ہے نہ باپ ہے نہ کوئی بھائی ہے نہ ایسے قراہتی رشتہ دار ہیں جو میری کچھ خبر گیری کر سکیں۔ التجاہ ہے کہ عرصہ گاہِ محشر میں میرے اس شوہر سے جدا ہی نہ ہو۔ اور دنیا میں مجھ غریب کو آپ کے اہل بیت اپنی کنیزوں میں رکھیں۔ اور میری عمر کا آخری حصہ آپ کی پاک یہبیوں کی خدمت میں گزر جائے۔

حضرت امام کے سامنے یہ تمام عہد ہو گئے اور وہب نے عرض کر دیا کہ اے امام اگر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاقت سے مجھے جنت ملی تو میں عرض کروں گا کہ یہ بی بی میرے ساتھ رہے اور میں نے اس سے عہد کیا ہے۔

وہ باہزت ٹھاہ کر میدان میں چل دیا۔ لکھرا عداء نے دیکھا کہ گھوڑے پر ایک ماہر و سوار ہے اور اجل ناگہانی کی طرح دشمن پر تاخت لاتا ہے۔ ہاتھ میں نیزہ ہے دوش پر سپر ہے اور دل ہلا دینے والی آواز کے ساتھ یہ درج پڑھتا آ رہا ہے۔

امیر حسین و نعم الامر

لہ لمعہ کالسراج المنیر

ایں چہ ذوقست کہ جاں می بازو وہب کلبی بگ کوئے حسین
دست او تفع زندتا کہ کنند روئے اشارار چوکیسوئے حسین
برق خاطف کی طرح میدان میں پہنچا۔ کوہ پیکر گھوڑے پر سپہ گری کے فون دکھائے۔
صف اعداء سے مبارز طلب کیا جو سامنے آیا توار سے اس کاسر اڑایا۔ گرد و پیش خود سروں
کے سروں کا انبار لگادیا۔ اور ناکسوں کے تن خون و خاک میں ترتیب نظر آنے لگے۔ یکبارگی

گھوڑے کی بیگ موزڈی اور ماں کے پاس آ کر عرض کیا کہ اے مادر محفوظہ تو مجھ سے راضی ہوئی اور بیوی کی طرف جا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا جو بے قرار رورہی تھی اور اس کو صبر دلایا اس کی اذبان حال کہتی تھی۔

جان زعم فرسودہ دارم چوں نہ نالم آه آه
دل بدرد آلوہ دارم چوں نہ گریم زار زار
انتے میں اعداء کی طرف سے آواز آئی کہ کوئی مبارز ہے۔ وہب گھوڑے پر سوار ہو کر
میدان کی طرف روانہ ہوا۔ نہن ٹھنکلی پاندھے اس کو دیکھو رہی ہے اور آنکھوں سے آنسو
کے دریا بہاری ہے
از پیش من آں یار چو تقبیل کناں رفت
دل نفرہ برآزو کہ جاں رفت رواں رفت

وہب شیر ٹیاں کی طرح تفع آبدار و نیزہ جاں ٹھکار لے کر معز کارزار میں صاعقه
وار آپنچا۔ اس وقت میدان میں اعداء کی طرف سے ایک مشہور بہادر اور نامدار سوار حکم بن
طفیل غور نبیر و آزمائی میں سرشار تھا۔ وہب نے ایک ہی جملے میں اس کو نیزہ پر اٹھا کر اس
طرح زمین پر دے مارا کہ ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں اور دونوں لشکروں میں شورج گیا۔ اور
مبارزوں میں ہمت مقابلہ نہ رہی۔ وہب گھوڑا دوڑانا قلب دشمن پر پہنچا۔ جو مبارز سامنے
آتا اس کو نیزہ کی نوک پر اٹھا کر خاک پر پٹک دیتا۔ یہاں تک کہ نیزہ پارہ پارہ ہو گیا تکوار
میاں سے نکالی اور تفع زنوں کی گرد نیں اڑا کر خاک میں ملا دیں۔ جب اعداء اس جنگ
سے تھک آگئے تو عمر بن سعد نے حکم دیا کہ لوگ اس کے گرد ہجوم کر کے حملہ کر دیں اور ہر
طرف سے یکبارگی ہاتھ چھوڑیں ایسا ہی کیا اور جب وہ نوجوان زخموں سے چور ہو کر زمین
پر آیا تو سیاہ دلان بد باطن نے اس کا سر کاٹ کر لشکر امام حسین میں ڈال دیا۔ اس کی ماں
بیٹی کے سر کو اپنے منہ سے ملتی تھی اور کہتی تھی اسے بیٹا، بہادر بیٹا اب تیری ماں تھجھ سے راضی
ہوئی۔ پھر وہ سر اس دلہن کی گود میں لا کر رکھ دیا۔ دلہن نے اپنے پیارے شوہر کے سر کو بوسہ
دیا۔ اسی وقت پروانہ کی طرح اس شمع جبال پر تربان ہو گی اور اس کا طائر روح اپنے نوشہ
کے ساتھ ہم آغوش ہو گیا

اور امام عالی مقام کی خدمت میں حاضر ہو کر گھوڑے سے اتر کر نیازمندوں کے طریقوں پر رکاب تھا اور عرض کیا کہ اے ابن رسول فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہی حر ہوں جو پہلے آپ کے مقابل آیا اور جس نے آپ کو اس میدان بیان میں روکا۔ اپنی اس جسارت و مہاروت پر نادم ہوں۔ شرمندگی اور بخالت نظر نہیں آنے دیتی۔ آپ کی کرمیانہ صدائں کر امیدوں نے ہمت باندھی تو حاضر خدمت ہوا ہوں۔ آپ کے کرم نے کہا بعید کہ ٹلو جرم فرمائیں۔ اور غلامان با اخلاص میں شامل کریں اور اپنے اہل بیت پر جان قربان کرنے کی اجازت دیں۔

حضرت امام نے حر کے سر پر دست مبارک رکھا اور فرمایا:

”اے حر بارگاہ الہی میں اخلاص مندوں کے استغفار مقبول ہیں اور توبہ مسجباً عذر خواہ محروم نہیں جاتے وہو الذي يقبل التوبۃ عن عبادہ شاد باش کہ میں نے تیری تفصیر معاف کی اور اس سعادت کے حصول کی اجازت دی“

حر اجازت پا کر میدان کی طرف روانہ ہوا گھوڑا چپکا کر صفا ادعا پر پہنچا۔ حر کے بھائی مصعب بن یزید نے دیکھا کہ حر نے دولت سعادت پائی اور نعمت آخرت سے بہرہ مندا ہوا۔ اور حرص دنیا کے غبار سے اس کا دامن پاک ہوا اور اس کے دل میں بھی ولولہ اٹھا اور باغ اٹھا کر گھوڑا دوڑا تھا ہوا چلا۔ عمرو بن سعد کے شکر کو گمان ہوا کہ بھائی کے مقابلہ کے لئے چاہتا ہے جب میدان میں پہنچا، بھائی سے کہنے لگا بھائی تو میرے لئے خضر را ہو گیا اور مجھے تو نے سخت ترین مہلکہ سے نجات دلائی، میں بھی تیرے ساتھ ہوں اور رفاقت حضرت امام کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں اعداد بے بد کیش کو اس واقعہ سے نہایت حیرانی ہوئی۔

یہ واقعہ دیکھ کر عمرو بن سعد کے بدن پر لرزہ پڑ گیا اور وہ بکبر اٹھا اور اس لے اپنی ٹھیک کرنے کے لئے بھیجا اور کہا کہ رفت و مدارات کے ساتھ سمجھا ہے۔ اکثر کو اپنے موافق کرنے کی کوشش کرے اور اپنی چالبازی اور فریب کاری انہما کو ہاتھا ہے۔ مہربھی تاکہی ہو تو اس کا سر کاٹ لے آئے۔ وہ شخص چلا اور حر تے آئے لئے اگا اے ۱۷

”اے حر اتیری عقل و دنائی پر ہم فخر کیا کرتے تھے مگر آج تا نے مال نادائی کی کہ اس لفکر جرار سے نکل کر بیزید کے انعام و اکرام ٹھوکر مادر پندھے کس مسافروں کا

سرخوئی اسے کہتے ہیں کہ راہ حق میں سر کے دینے میں ذرا تو نے تامل نہ کیا
اسکنکما اللہ فرادیس العجان واغرقكم في بحار الرحمة والرضوان
(روضۃ الاحباب)

ان کے بعد اور سعادت مند جان ثارزاد جان فاری دیتے اور جانیں ندا کرتے رہے۔ جن جن خوش نصیبوں کی قسمت میں تھا انہوں نے خاندان الی بیت پر اپنی جانیں فدا کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس زمرہ میں حر بن یزید رب ابی قابل ذکر ہے۔ جنگ کے وقت حر کا دل بہت مضطرب تھا اور اس کی سیماں وار بے قراری اس کو ایک جگہ نہ شہر نے دیتی تھی کبھی وہ عمرو بن سعد سے جا کر کہتے تھے کہ تم امام کے ساتھ جنگ کرو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دو گے۔ عمرو بن سعد کو اس کا جواب نہ بن آتا تھا وہاں سے بہت کر پھر میدان میں آتے ہیں بدن کا نپ رہا ہے جہڑے زرد ہے پریشانی کے آثار نمایاں ہیں دل دھڑک رہا ہے۔ ان کے بھائی مصعب بن یزید نے ان کا یہ حال دیکھ کر پوچھا کہ اے برادر آپ مشہور جنگ آزماء اور شجاع ہیں۔ آپ کے لئے یہ پہلا ہی معز کہ نہیں، بارہ جنگ کے خونی مناظر آپ کی نظر کے سامنے گزرے ہیں اور بہت سے دیوپیکر آپ کی خون آشام تکوار سے پومند خاک ہوئے ہیں۔ آپ کا یہ کیا حال ہے اور آپ پر اس قدر خوف و ہراس کیوں غالب ہے۔ حر نے کہا کہ اے برادر یہ مصطفیٰ کے فرزند سے جنگ ہے۔ اپنی عاقبت سے بلائی ہے۔ بہشت و دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں۔ دنیا پوری قوت کے ساتھ مجھ کو جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے اور میرا دل اس کی بیت سے کانپ رہا ہے۔ اسی اثناء میں حضرت امام کی آواز آئی فرماتے ہیں:

”کوئی ہے جو آج آں رسول پر جان ثار کرے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری میں سرخوئی پائے“

یہ صدھی جس نے پاؤں کی بیڑیاں کاٹ دیں۔ دل بے تاب کو قرار بخشا اور اطمینان ہوا کہ شاہزادہ کوئین حضرت امام حسین میری پہلی جرات سے چشم پوشی فرمائیں تو عجب نہیں۔ کریم نے کرم سے بشارت دی ہے۔ جان فدا کرنے کے ارادہ سے چل پڑو۔ گھوڑا دوڑا یا

ساتھ دیا۔ جن کے ساتھ نان خشک کا ایک گلزار اور پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔

تیری اس نادانی پر افسوس آتا ہے“

حرنے کہا:

”اے بے عقل ناصح تجھے اپنی نادانی پر رنج کرنا چاہیے کہ تو نے طاہر کو چھوڑ کر نہیں کو

قبول کیا اور دولت باقی کے مقابلے میں دنیاۓ فانی کے موہوم کو ترجیح دی۔

حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسین کو اپنا پھول فرمایا ہے۔ میں

اس گلستان پر جان قربانی کرنے کی تمنا رکھتا ہوں، رضاۓ رسول سے بڑھ کر

کوئی میں کون سی دولت ہے“

کہنے لگا:

”اے حر ایقتو میں خوب جانتا ہوں لیکن ہم لوگ سپاہی ہیں اور آج دولت و مال یزید

کے پاس ہے“

حرنے کہا:

”اے کم ہست اس حوصلہ پر لعنت ا

اب تو ناصح بد باطن کو یقین ہو گیا کہ اس کی چرب زبانی حر پر اٹھنیں کر سکتی۔ اہل بیت

کی محبت اس کے قلب پر اتر گئی ہے۔ اور اس کا سینہ آں رسول علیہ السلام کی ولاء مملو ہے

کوئی مکروہ فریب اس پر نہ چلے گا۔ باقی کرتے کرتے ایک تیر حر کے سینہ پر کھینچ دار، حر نے

زم کھا کر ایک نیزہ کا وار کیا جو سینہ سے پار ہو گیا اور زین سے اٹھا کر زین پر پلک دیا۔ اس

شخص کے تین بھائی تھے کیمارگی حر پر دوڑ پڑے۔ حر نے آگے بڑھ کر ایک کاس توار سے اڑا

دیا وسرے کی کر میں ہاتھ ڈال کر زین سے اٹھا کر اس طرح پھینکا کہ گردن ٹوٹ گئی۔ تیسرا

بھاگ نکلا اور حر نے اس کا تعاقب کیا۔ قریب پہنچ کر اس کی پشت پر نیزہ مارا وہ سینہ سے نکل

گیا اب حر نے لشکر ابن سعد کے خیسہ پر حملہ کیا اور خوب، زور کی جنگ ہوئی۔ لشکر ابن سعد کو حر

کے جگلی ہنر کا اعتراف کرنا پڑا اور وہ جان باز صادق داد شجاعت دے کر فرزند رسول پر جان

فدا کر گیا۔

حضرت امام عالی مقام حر کو اٹھا کر لائے اور اس کے سر کو زانوئے مبارک پر کھکر اپنے

پاک دامن سے اس کے چہرے کا غبار دور فرمانے لگے۔ ابھی رمق جان باقی تھی این زہراء کے پھول کی میکتے دامن کی خوبصورت دماغ میں بچپنی مشام جاں معطر ہو گیا، آنکھیں کھول دیں۔ دیکھا کہ ابن رسول اللہ کی گود میں ہے۔ اپنے بخت و مقدر پر ناز کرتا ہوا فردوس بریں کو روانہ ہوا۔ انا اللہ و انا الیه راجعون

حر کے ساتھ اس کے بھائی اور غلام نے بھی نوبت بہ نوبت داد شجاعت دے کر اپنی جانیں اہل بیت پر قربان کیں۔ پچاس سے زیادہ آدمی شہید ہو چکے۔ اب صرف خاندان اہل بیت باقی ہے اور دشمنان بد باطن کی انہیں پر نظر ہے۔ یہ حضرات پروانہ وار حضرت امام پرشوار ہیں یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ امام عالی مقام کے اس چھوٹے سے لشکر میں سے اس مصیبت کے وقت میں کسی نے بھی ہست نہ ہاری۔ رفتاء اور موالی میں سے کسی کو بھی تو اپنی جان پیاری نہ معلوم ہوئی۔ ساتھیوں میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جو اپنی جان لے کر بھاگتا۔ یاد شمنوں کی پناہ چاہتا۔ جان ثاران امام نے اپنے صدق و جانبازی میں پروانہ و بلبل کے افسانے بیچ کر دیے۔ ہر ایک کی تمنا تھی اور ہر ایک کا اصرار تھا کہ پہلے جان ثاری کو ان کو موقع دیا جائے عشق و محبت کے متواں شوق شہادت میں مست تھے۔ توں کا سرے جدا ہونا اور راہ خدا میں شہادت پانا ان پر وجد کی یقینی طاری کرتا تھا۔ ایک کو شہید ہوتا دیکھ دوسرے کے دلوں میں شہادتوں کی انگلیں جوش مارتی تھیں۔

اہل بیت کے نوجانوں نے خاک کربلا کے صفات پر اپنے خون سے شاعت، جوانمردی کے وہ بے مثال نقش ثبت فرمائے جن کو تبدل از منہ کے ہاتھ محو کرنے سے قاصر ہیں۔ اب تک نیاز مندوں اور عقیدت کیشیوں کی معرکہ آ رائیا تھیں جنہوں نے طبریہ اور ان شجاعت کو خاک و خون میں لٹا کر اپنی بہادری کے غلغٹے دکھائے تھے اب اسد اللہ نے یہ ای حق کا موقع آیا۔ اور علی الرقی کے خاندان کے بہادروں کے گھوڑوں نے مہماں نہ بالا جو لا گاہ بنایا۔

ان حضرات کامیدان میں آنا تھا کہ بہادروں کے دل ہاؤں میں لرز نے لگے اور ان کے حملوں سے شیر دل بہادر جن جائے۔ اسد اللہ تواریخیں یا شہاب ہاتب کی آتش باری۔ بنی ہاشم کی نبڑا زمائی اور چاں ہار حملوں لے رہا کی تندب زمین کو دشمنوں کے

خون سے سیراب کر دیا۔ اور خلک ریگستان نظر آنے لگا۔ نیزہوں کی نوکوں پر صفت شکن بہادروں کو اٹھانا اور خاک میں ملانا ہاشمی نوجوانوں کا معمولی کرتبا تھا۔ ہر ساعت نیامبارز آتا تھا اور پاتھرا تھا تھا ہی فنا ہو جاتا تھا۔ ان کی تیغے بے نیام اجل کا پیام تھی اور نوک سنان قضا کا فرمان۔ تواروں کی چمک نے نگاہیں خیرہ کر دیں اور حرب و ضرب کے جو ہر دیکھ کر کوہ پیکر ترساں و ہر اسان ہو گئے کبھی مینہ پر حملہ کیا تو صفیں درہم برہم کرڈالیں معلوم ہوتا تھا کہ سوار مقتلوں کے سمندر میں تیر رہا ہے۔ کبھی میسرہ کی طرف رخ کیا تو معلوم ہوا کہ مردوں کی جماعت کھڑی تھی جو اشارہ کرتے ہی لوٹ گئی۔ ساععہ کی طرح چکنے والی تیغ خون میں ڈوب ڈوب نکلتی تھی اور خون کے قطرات اس سے سپکتے رہتے تھے۔ اس طرح خاندان امام کے نوجوان اپنے اپنے جو ہر دکھا دکھا کر امام عالی مقام پر جان قربان کرتے چلے جا رہے تھے۔ خیمد سے چلتے تھے تقبل احیاء عند ربهم کے چمنستان کی دلش فدان کی آنکھوں کے سامنے ہوتی تھی۔ میدان کربلا کی راہت اس منزل تک پہنچا جتے تھے۔

فرزندان امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محاربہ نے دشمن کے ہوش ازاد یئے اہن سعد نے اعتراض کیا کہ اگر فریب کاریوں سے کام نہ لیا جاتا یا ان حضرات پر پانی بندہ کیا جاتا تو اہل بیت کا ایک ایک نوجوان تمام لشکر کو بر باد کرڈا تاجب وہ مقابلہ کے لئے اٹھتے تھے تو معلوم تھا کہ قہر الہی آ رہا ہے۔ ان کا ایک ایک ہنر و رصف شکنی و مبارز رفقی میں فرد تھا۔ الحاصل اہل بیت کے نونہالوں اور ناز کے پالوں نے میدان کربلا میں حضرت امام پر اپنی جانیں فدا کیں اور تیر و سنان کی بارش میں حمایت حق سے منہ نہ موڑا۔ گردیں کٹا کیں، خون ہبائے جانیں دیں، مگر کلمہ ناحق زبان پر نہ آنے دیا۔ نوبت بہ نوبت تمام شہزادے شہید ہوتے چلے گئے۔ اب حضرت امام کے سامنے ان کے نور نظر حضرت علی اکبر حاضر ہیں۔ میدان کی اجازت چاہتے ہیں۔ منت و سماجت ہو رہی ہے۔ عجیب وقت ہے۔ چھپتا بینا شفیق باپ سے گروں کٹوانے کی اجازت چاہتا ہے۔ اور اس پر اصرار کرتا ہے، جس کی کوئی ہٹ کوئی ضد ایسی تھی جو پوری نہ کی جاتی جس ناز نین کو کبھی پر مہربان نے انکاری جواب نہ دیا تھا۔ آج اس کی یہ تمنا یہ انتخاب جگر پکیا اثر کرتی ہوگی۔ اجازت دیں تو کس بات کی؟ گروں کٹانے

سوانح کربلا

۹۷۶

اور خون بہانے کی نہ دیں تو چمنستان رسالت کا دھگل شاداب کھلا دیا جاتا ہے۔ مگر اس آرزو مند شہادت کا اصرار اس حد پر تھا اور شوق شہادت نے ایسا وارفتہ بنا دیا تھا کہ چار دن اچار حضرت امام کو اجازت دینا ہی پڑی۔ حضرت امام نے اس نوجوان جیل کو خود گھوڑے پر سوار کیا۔ الحمد اپنے دست مبارک سے اگائے۔ فولادی مغفرہ سر پر رکھا۔ کمر پر پکا باندھا، تکوہر جھائل کی نیزہ اس ناز پروردہ سیادت کے مبارک ہاتھ میں دیا۔ اس وقت اہل بیت کی بیویوں بچوں پر کیا گزر رہی تھی جن کا تمام کنبہ و قبیلہ پر اور فرزند سب شہید ہو چکے تھے۔ اور ایک جگہ کتاب ہوا چراغ بھی آخری سلام کر رہا تھا ان تمام مصائب کو اہل بیت نے رضاۓ حق کے لئے بڑے استقلال کے ساتھ برداشت کیا اور یہ انہیں کا حوصلہ تھا۔ حضرت علی اکبر خیمد سے رخصت ہو کر میدان کا رزاری طرف تحریک لائے۔ جنگ کے مطلع میں ایک آفتاب چکا مٹکیں کاکل کی خوبیوں سے مہد ان مہک کیا۔ پھرہ کی جگہ نے معز کہ کارزار کو عالم انوار بنادیا

نور نگاہ فاطمہ آسمان ہناب ممبر دل خدیجہ پاک ارم قیاب
لخت دل امام حسین ان بہتراب شیر خدا کا شیر وہ شیروں میں انتخاب
گیسو تھے مشک ناب تو چہرہ تھا آفتاب
صورت تھی انتخاب تو قامت تھا ۱۱ ہو اب
مہر پسہر ہو گیا جخلت سے آب آب
گیسو تھے مشک ناب تو چہرہ تھا آفتاب
چرہ سے شاہزادہ لے الحاذی نقاب
کاکل کی شام رثی لی عم موسم شباب
شہزادہ جلیل علی اکبر جیل
بستان حسن میں گل خوش منظر شباب
پالا تھا اہل بیت نے آغوش ناز میں!
شرمندہ اس کی ناز کی سے شیشہ حباب
چمکا جو رن میں فاطمہ زہرا کا ماہتاب
یا ہاشمی جوان کے رن سے الحاذی نقاب
جرات نے باگ تھامی شباء نے کی رکاب
دل کا پٹ اٹھے ہو کیا اعداء کو مضطرب
عینیں و غصب کے شعلوں دل ہو گئے کہاب
یا ازدما تھا اس گل کے ہاتھ میں
نیزہ جگر شگاف تھا موت کا یا اسوے العقاب

چکا کے تیغ مردوں کو نامرد کر دیا
اس سے نظر ملاتا تھی کس کے دل میں تاب
کہتے تھے آج تک نہیں دیکھا کوئی جواں
ایسا شجاع ہوتا جو اس شیر کا جواب
شیراں گنوں کی حالتیں ہونے لگیں خراب
مردان کا رلزہ بر اندام ہو گئے
کہ پیکروں کو تیغ سے دوپارہ کر دیا
تلوار تھی کہ صاعقه برق بار تھا
کی ضرب خود پر تو اڑا ڈالا تار کا ب
یا از برائے رجم شیاطین تھا شہاب
چہرے میں آفتاب نبوت کا نور تھا
آنکھوں میں شان صولات سرکار بو تراب
پیاسا رکھا جنہوں نے انہیں سیر کر دیا
اس جو دپر ہے آج تری تیغ زہر آب
میدان میں اس کے حسن عمل دیکھ کے نعم
حیرت سے بد حواس تھے جتنے تھے شخ و شباب

میدان کربلا میں فاطمی نوجوان پشت سمندر پر جلوہ آرا تھا۔ چہرہ کی تابش ماہ و تاباں کو
شرما رہی تھی۔ سرو قامت نے اپنے جمال سے ریگستان کو بتان حسن بنادیا ہے۔ جوانی کی
بہاریں قدموں پر شثار ہو رہی تھیں۔ سنبل کا کل سے جمل بگ گل اس کی نزاکت سے منفلع
حسن کی تصویر، مصطفیٰ کی تنویر جیبیں کبریا علیہ التحیۃ والثاء کے جمال اقدس کا خطبہ پڑھ رہی
تھی۔ یہ چہرہ تاباں اس روئے درخشان کی یاد دلاتا تھا۔ ان سنگلہوں پر حیرت جو اس گل
شاداب کے مقابلہ کا ارادہ رکھتے تھے۔ ان بے دینوں پر بے شمار نفرت جو حبیب خدا کے
تونہاں کو گزند پہنچانا چاہتے تھے۔ یا ادالتی شیر میدان میں آیا صاف اعدا کی طرف نظر کی
ذوالفقار حیدری کو چکایا اور اپنی زبان مبارک سے رجز شروع کی انا علی ابن حسین
علی نحن اهل الیت اولی بالنبی جس وقت شاہزادہ عالی قدر نے یہ رجز پڑھی ہو گی
کربلا کا چچہ اور ریگستان کوفہ کا ذرہ کانپ گیا ہوگا۔ ان مدعاں ایمان کے دل پھر
سے بدر جہا پھر سے بدر جہا بدر تھے جنہوں نے اس نوبادہ چمنستان رسالت کی زبان شیریں
سے یہ کلے نے پھر بھی ان کی آتش عنادسرد نہ ہوئی اور کمیتہ سینہ سے کینہ دور نہ ہوا۔ لشکر یوں
نے عمر بن سعد سے پوچھایا سوار کون ہے جس کی تجھی نگاہوں کو خیرہ کر رہی ہے اور جس کی
بیت و صولات سے بہادروں کے دل ہر سال ہیں شان شجاعت اس کی ایک ایک ادا سے
ظاہر ہے کہنے اکا یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں۔ صورت و سیرت میں

اپنے جد کریم علیہ الصلوٰۃ والسلیم سے بہت منابت رکھتے ہیں۔ یہ سن کر لشکر یوں کو کچھ
پریشانی ہوئی۔ اور ان کے دلوں نے ان پر ملامت کی کہ اس آقا زادے کے مقامیں آتا اور
ایسے جلیل القدر مہمان کے ساتھ یہ سلوک بے مرمتی کرنا غلط پن اور بد باطنی ہے لیکن انہیں
زیاد کے وعدے اور یزید کے العام و اکرام طبع و دولت و مال کی حص نے اس طرح گرفتار کیا
تھا کہ وہ اہل بیت اطہار کی قدر و شان اور اپنے افعال و کردار کی شامت و نجاست جانے کے
باوجود اپنے ضمیر کی ملامت کی پرواہ نہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی بنے اور آل
رسول کے خون سے کنارہ کرنے اور اپنے دارین کی رو سیاہی سے نپھن کی انہوں نے کوئی
پرواہ نہ کی شاہزادہ عالی قدر نے مبازار طلب فرمایا صاف اعداء میں کسی کو جنت نہ ہوئی۔ کسی
بہادر کا قدم نہ بڑھا معلوم ہوتا تھا کہ شیر کے مقابلہ بکریوں کا ایک گلمہ ہے جو دم بخود اور
ساخت ہے۔

حضرت ملیک اکبر نے پھر انہرہ مارا اور فرمایا کہ اے ظالمان جفا کیش اگر بھی فالمد کے
خون کی پیاس ہے تم میں سے جو بہادر ہو اسے میدان میں بھیجو زور بازو سے علی دیکھنا ہو تو
میرے مقابل آؤ تھر ای ہامت تھی جو آگے بڑھتا کس کے دل میں تاب و توہاں تھی کہ شیر
ٹیکاں کے سامنے آتا۔ بہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ دشمنان خونخوار میں سے کوئی ایک
آگے نہ بڑھتا اور ان لوہا بر کی ہمت نہیں ہے کہ ایک کو ایک کے مقابل کریں تو آپ نے
سمند باد پا کی باگ انہائی اور تو سن صبار فتار کے مہیز لگائی اور صاعقه وار دشمن کے لشکر پر حملہ
کیا۔ جس طرف زد کی پرے پرے ہٹا دیے۔ ایک ایک وار میں کئی کئی دیو پیکر گر دیے۔
اکھی میہنے پر نپکتے تو اس کو منتشر کیا ابھی میرہ کی طرف پلٹے تو صیفیں درہم برہم کر رہا ہیں۔ کبھی
قلب لشکر میں نفوذ کایا تو کروں کشوں کے سر موسم خزان کے پیور کی طرح تن کے درختوں
سے جدا ہو کر گرنے لگے ہر طرف شور برپا ہو گئے۔ دلاوروں کے دل پھوٹ گئے بہادروں
کی ہمتیں ٹوٹ گئیں کبھی نیزے کی ضرب تھی کبھی تلواروں کا دار تھا۔ شہزادہ اہل بیت کا حملہ نہ
تھا۔ عذاب الہی کی بلائے عظیم تھی۔ دھوپ میں جنگ کرتے کرتے چمنستان اہل بیت کے
گل شاداب کوشکی کا غلبہ ہوا۔ باگ مژو کروالہ ماجد کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کیا۔
ابتاء العطش اسے پدر بزرگو اپیاس کا بہت غلبہ ہے۔ غلبہ کی کیا انتہا تین دن سے پانی بند

ہے۔ تیز دھوپ اور اس میں جاں بازانہ دوڑ دھوپ، گرم ریگستان، لوہے کے ہتھیار جو بدن پر لگے ہوئے ہیں وہ تماثل آفتاب سے آگ ہو رہے ہیں۔ اگر اس وقت حلقت کرنے کے لئے چند قطرے مل جائیں تو فاطمی شیر کرپ خصلتوں کو پیوند خاک کر دا لے۔

شفقی باب نے جانب ریئی کی بیان دیکھی مگر پانی کہاں تھا جو اس تشنہ شہادت کو دیا جاتا۔ دست شفقت سے چہرہ گاملوں کا گرد و غبار صاف کیا اور اپنی انگشتی فرزند احمد کے دہان اقدس میں رکھ دی۔ پدر مہربان کی شفقت سے فی الجملہ تکین ہوئی پھر شہزادہ نے میران کارخ کیا۔ پھر صدای ”ہل من مبازر“ کوئی جان پر کھیلے والا ہو تو سامنے آئے۔ عمرہ بن عاصی نے طارق سے کہا ہوئے شرم کی بات ہے کہ اہل بیت کا اکیلانوجوان میدان میں ہے اور تم ہزاروں کی تعداد میں ہو۔ اس نے پہلی مرتبہ مبارز طلب کیا تو تمہاری جماعت میں کسی کو ہمت نہ ہوئی۔ پھر وہ آگے بڑھا تو صفیں کی صفائی درہم کر دا لیں۔ اور بہادروں کا کھیت کر دیا۔ بھوکا ہے پیاسا ہے دھوپ میں لڑتے لڑتے تھک گیا ہے۔ ختنہ اور مانندہ ہو چکا ہے۔ پھر مبارز طلب کرتا ہے اور تمہاری تازہ دم جماعت میں سے کسی کو یارائے مقابلہ نہیں۔ تف ہے تمہارے دعوائے شجاعت و رسالت پر ہو کچھ غیرت تو میدان میں پہنچ کر مقابلہ کر کے فتح حاصل کر۔ تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تو نے یہ کام انجام دیا تو عبد اللہ ابن زیاد نے تجوہ کو موصل کی حکومت دلا دوں گا۔ طارق نے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں فرزند رسول اور اولاد بتوں سے مقابلہ کر کے اپنی عاقبت بھی خراب کروں پھر بھی تو اپنا وعدہ و فنا نہ کرے تو نہ میں دنیا کا رہا دین کا۔ ابین سعد نے قسم کھائی اور پختہ قول و قرار کیا۔

اس پر حریص طارق موصل کی حکومت کے لائق میں گل بستان رسالت کے مقابلہ کے لئے چلا۔ سامنے پہنچتے ہی شہزادہ والا بتار پر نیزہ کاوار کیا۔ شاہزادہ عالی جاہ نے اس کا نیزہ رد کیا۔ کریمہ پر ایک ایسا نیزہ مارا کہ طارق کی پیٹھ سے نکل گیا اور وہ ایک دم گھوڑے سے گر گیا۔ شہزادہ نے بکمال ہرمندی گھوڑے کو ایڈھے کے کراسکورونڈا اور ہڈیاں پکنا چور کر دیں۔ یہ دیکھ کر طارق کے بیٹے عمر و بن طارق کو طیش آیا۔ اور وہ جھلاتا ہوا گھوڑا اوزا کر شہزادہ پر چمٹا آور ہوا۔ شہزادہ نے ایک ہی نیزہ میں اس کا کام بھی تمام کیا۔

اس کے بعد اس کا بھائی طلحہ بن طارق باب اور بھائی کا بدلہ لینے کے لئے آتشیں

سوانح کربلا

{101}

شعلہ کی طرح شہزادہ پر دوڑ پڑا۔ حضرت علی اکبر نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر زین سے اٹھایا اور زمین پر اس زور سے پکا کہ اس کا دم نکل گیا۔ شہزادہ کی بیت سے لشکر میں شور برپا ہو گیا۔

ابن سعد نے ایک مشہور بہادر مصraig اben غالب کو شہزادہ کے مقابلہ کے لئے بھیجا۔ مصraig نے شہزادہ پر حملہ کیا آپ نے تکوار سے نیزہ قلم کر کے اس کے سر پر ایسی توار ماری کر زین تک کٹ گئی دو لکڑے ہو گر گر گیا۔ اب کسی میں ہمت نہ رہی کہ تنہا اس شیر کے مقابل آتا، ناچار ابن سعد نے حکم بن طفل بن نوغل کو ہزار سواروں کے ساتھ شہزادہ پر یکبارگی حملہ کرنے کے لئے بھیجا۔ شاہزادہ نے نیزہ اٹھا کر ان پر حملہ کیا۔ اور انہیں دھکیل کر قلب لشکر تک پہنچا دیا۔

اس حملہ میں شہزادہ کے ہاتھ سے کتنے بد نصیب ہلاک ہوئے، کتنے پیچھے ہے آپ پر بیاس کی شدت بہت ہوئی۔ پھر گھوڑا اوزا اکر پر عالی قدر کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا العطش العطش بابا پیاس کی بہت شدت ہے۔ اس مرتبہ حضرت امام نے فرمایا: ”اس نور دیدہ حوض کوڑ سے سیرابی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ دستِ مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثانية سے وہ جام ملے گا جس کی لذت نہ تصور میں آ سکتی ہے نہ زبان بیان کر سکتی ہے۔“

یعنی کہ حضرت علی اکبر کو خوشی ہوئی اور وہ پھر میدان کی طرف لوٹ گئے اور لشکر، شہنشاہ میں دیوار پر حملہ کرنے لگے اس مرتبہ لشکر اشرار نے یکبارگی چاروں طرف سے تحریر کر جملے کرنا شروع کر دیئے۔ آپ بھی حملہ فرماتے رہے۔ اور دشمن ہلاک ہو کر خاک و خون میں لوٹنے رہے۔ لیکن چاروں طرف سے نیزوں کے زخمی نے تن ناز نین کو چکنا چور کر دیا تھا اور جن فاطمہ کا گل نگین اپنے خون میں نہما گیا تھا۔ ہم تھیں، سنان کی ضریب پڑھیں۔ اور فاطمی شہزادہ پر تیر و تلوار کا مینہ برس رہا تھا۔ اس حالت میں آپ پشت زین سے روئے زمین پر آئے اور سرو قامت نے خاک کر بابا پر استراحت کی۔ اس وقت آپ نے آواز دی یا ابتساہ اور کنی اے پدر بزرگوار مجھ کو بیجھے۔ حضرت امام گھوڑا بڑھا کر میدان میں جا پہنچا اور جاں بازو نہیں میں لائے۔ اس کا سر گود میں لیا۔ حضرت علی اکبر نے

آنکھ کھولی اور پاسروالد کی گود میں دیکھ کر فرمایا:

”جان مایا ز مندان قربان تو باداے پدر بزرگوار میں دیکھ رہا ہوں آسمان کے دروازے کھلے ہیں۔ بہشتی حوریں شربت کے جام لئے انتظار کر رہی ہیں،“

یہ کہا اور جان جان آفریں کے سپرد کی انا اللہ وانا الیه راجعون

اہل بیت کا صبر و تحمل اللہ اکبر! امید کے گل نو شفاقت کو محلا یا ہوادیکھا اور الحمد للہ کہا، ناز کے پاؤں کو قربان کر دیا اور شکر الہی بجالائے مصیبت و انداد کی پکجھ نہایت ہے فاقہ پر فاقہ ہیں۔ پانی کا نام و نشان نہیں۔ بھوکے پیاس سے فرزند ترپ ترپ کر جانیں دے پچھے ہیں۔ جلتے ریت پر فاطمی فونہال ظلم و جفا سے ذبح کئے عزیز و اقارب دوست و احباب خادم، موالی، دلبند، جگر پیوند سب آئین وفا ادا کر کے دو پھر میں شربت شہادت نوش کر پچھے ہیں۔ اہل بیت کے قافلہ میں سناثا ہو گیا ہے۔ جن کا کلمہ کلمہ تسکین دل و راحت جان تھا۔ وہ نور کی تصویریں خاک و خون میں خاموش پڑی ہوئی ہیں۔ آل رسول نے رضا و صبر کا وہ امتحان دیا جس نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے بڑے سے لے کر پچھے تک مجدلے مصیبت تھے۔

حضرت امام کے چھوٹے فرزند علی اصغر جو بھی کمن ہیں شیرخوار ہیں، پیاس سے بے شاب ہیں۔ شدت شکننی سے ترپ رہے ہیں ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ اس چھوٹے پچھے کی نہیں زبان باہر آتی ہے۔ بے چینی میں ہاتھ پاؤں مارتے ہیں اور رنچ کھا کرہ جاتے ہیں کبھی ماں کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کو سوکھی زبان دکھاتے ہیں۔ نادان پچھے کیا جانتا ہے کہ ظالموں نے پانی بند کر دیا ہے۔ ماں کا دل اس سے چینی سے پاش پاش ہوا جاتا ہے۔ کبھی پچھے باپ کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ جانتا تھا کہ ہر چیز یہ لا کر دیا کرتے تھے۔ میری اس بیکسی کے وقت بھی پانی بہم پہنچائیں گے چھوٹے پچھے کی بے تابی دیکھی نہ گئی۔ والدہ نے حضرت امام سے عرض کیا اس نہیں سی جان کی بے تابی دیکھی نہیں جاتی۔ اس کو گود میں لے جائے اور اس کا حال ظالمان سندل کو دکھائیے اس پر تورخ آئے گا اس کو تمہن بدقطرے دے دیں گے۔ یہ نہ جنگ کرنے کے لائق ہے نہ میدان کے لائق ہے اس سے کیا عادوت ہے۔ حضرت امام اس چھوٹے نور نظر کو سینہ سے لگا کر سپاہ دشمن

کے سامنے پہنچا اور فرمایا کہ اپنا تمام کنبہ تو تمہاری بے رجی اور جور و جھاکے نذر کر چکا۔ اب اگر آتش بغض و عناد جوش پر ہے تو اس کے لئے میں ہوں۔ یہ شیرخوار بچہ پیاس سے دم توڑ رہا ہے اس کی بے تابی دیکھا اور بچھہ شاہنہ بھی رحم کا ہو تو اس کا حلق ترکرنے کو ایک گھونٹ پانی دو۔ جھاکاراں سنگل پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا اور ان کو ذرا تم نہ آیا۔ بجائے پانی کے ایک بدجھت نے تیرا مارا جو علی اصغر کا حلق چھیدتا ہوا امام کے بازو میں بیٹھ کیا۔ امام نے وہ تیر کھینچا۔ پچھے نہ ترپ کر جان دی۔ باپ کی گود سے ایک نور کا پتلا لپٹا، و انون میں نہار ہاہے اہل خیس کو گمان ہے کہ سیاہ دلان بے رحم اس پچھے کو ضرور پانی دے دیں گے اور اس کی تفہی دلوں پر ضرور اڑ کرے گی۔

لیکن جب امام اس شگوفہ تمثنا کو خیس میں لائے اور اس کی والدہ نے اول نظر میں دیکھا کہ بچہ میں بے تابانہ حرکتیں نہیں ہیں۔ سکون کا عالم ہے نہ وہ اضطراب ہے نہ بے قراری گمان ہوا کہ پانی دے دیا ہو گا، حضرت امام سے دریافت کیا۔ فرمایا وہ بھی ساتی کوثر کے جام رحمت و کرم سے یہ اب ہونے کے لئے اپنے بھائیوں سے جاما۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ چھوٹی قربانی بھی قبول فرمائی الحمد للہ علی احسانہ و نوالہ رضا و تسلیم کی امتحان گاہ میں امام نہیں اور ان لے تسلیم نے وہ ثابت قدمی، الحمالی کے عالم بلا نکہ بھی یہیت میں آ کیا، وکا۔ انسی اعلم مالا تعلمون کا راز ان پر منکشف ہو گیا ہو گا۔

حضرت امام عالی مقام کی شہادت

اب وہ وقت آیا کہ جانشناز ایک ایک کر کے رخصت ہو چکے اور حضرت امام پر جانشی قربان کر گئے۔ اب تہا حصہ حضرت امام ہیں اور ایک فرزند حضرت امام زین العابدین وہ بھی بیمار و ضعیف۔ باوجود اس ضعف و ناطاقی کے خیمہ سے باہر آئے اور حضرت امام کو تھہاد لیکھ کر مصاف کا رزار جانے اور اپنی جان شناز کرنے کے لئے نیزہ دست مبارک میں لیا لیکن بیماری سفر کی کوفت، بھوک پیاس متواتر فاقوں اور اپنی کی تکلیفوں سے ضعف اس درجہ ترقی کر گیا تھا کہ کھڑے ہونے سے بدن مبارک لرزتا تھا۔ باوجود اس کے ہمت مردانہ کا یہ حال تھا کہ میدان کا عزم کر دیا۔

حضرت امام نے فرمایا:

”جان پدرلوٹ آؤ میدان جانے کا قصد نہ کرو۔ کتبہ قبلیہ عزیز و اقارب خدام موالی جو ہراہ تھے راہ حق میں شارکر چکا اور الحمد للہ کہ ان مصائب کو اپنے جد کریم کے صدقہ میں صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کیا اب اپنا ناجائز ہدیہ سرراہ خدا میں نذر کرنے کے لئے حاضر ہے۔ تھہاری ذات کے ساتھ ہبت امید ہیں وابستہ ہیں بے کسان اہل بیت کو وطن تک کون پہنچائے گا۔ بیبیوں کی غمہداشت کون کرے گا۔ جدو پدر کی جوانان میں میرے پاس ہیں کس کو سپردی کی جائیں گی۔ قرآن کریم کی محافظت اور حقائق عرفانیہ کی تبلیغ کا فرض کس کے سر پر رکھا جائے گا۔ میری نسل کس سے چلے گی۔ حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے جاری ہو گا۔ یہ سب توقعات تھہاری ذات سے وابستہ ہیں دو دن ان رسالت و نبوت کے آخری چراغ غتم ہی ہو۔ تھہاری ہی طاعت سے دنیا مستفید ہو گی۔“

سے حبیب حق کے انوار و تجلیات کی زیارت کریں گے اے نور نظر لخت جگریہ تمام کام تھارے ذمہ کئے جاتے ہیں میرے بعد تم ہی میرے جانشین ہو گے تمہیں میدان جانے کی اجازت نہیں ہے۔“

حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ عرض کیا کہ: ”میرے بھائی تو جان شناز کی سعادت پا چکے۔ اور حضور کے سامنے ہی ساتی کوثر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آغوش و رحم کرم میں پہنچے۔ میں ترثیپ رہا ہوں۔“

مگر حضرت امام نے کچھ پذیرانہ فرمایا اور امام زین العابدین کو ان تمام ذمہ داریوں کا حامل کیا۔ اور خود جنگ کے لئے تیار ہوئے قبائلے مصری پہنچی اور عمامہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سر پر باندھا۔ سید الشہداء امیر حزہ رضی اللہ تعالیٰ کی پر پشت پڑھکی۔ حضرت حیدر کرار کی ذوالفقار آمد ارجماں کی۔ اہل خیمه نے اس منظر کو کن آنکھوں سے دیکھا۔ امام میدان جانے کے لئے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اس وقت اہل بیت کی بے کسی انتہا کو پہنچتی ہے اور ان کا سردار ان سے طویل عرصہ کے لئے جدا ہوتا ہے ناز پر وردوں کے سروں سے شفقت پدری کا سایہ اشٹے ہوا ہے۔ نونہالان اہل بیت کے گرد تیسی منڈ لارہی ہے۔

از واج سے سہاگ رخصت ہو رہا ہے۔ دکھے ہوئے اور مجرور حمل امام کی جدائی سے کٹ رہے ہیں۔ نیکس قالہہ سرت کی نگاہوں سے امام کے چہرہ دل افروز پر نظر کر رہا ہے۔ سیکھنے کی ترسی ہوئی آنکھیں پدر بزرگوار کی آخری دیدار کر رہی ہیں۔ آن دو آن میں یہ جلوے ہمیشہ کے لئے رخصت ہونے والے ہیں۔ اہل خیمه کے چہروں سے رنگ اڑ گئے ہیں۔ حضرت ویاس کی تصویریں کھڑی ہوئی ہیں نہ کسی کے بدن میں جنبش۔ بے نہ کسی کی زبان میں تاب حرکت نورانی آنکھوں سے آنسو پک رہے ہیں۔ خاندان مصطفیٰ بے طنی اور بے کسی میں اپنے سروں سے رحمت و کرم کے سایہ گستاخ کر رہا ہے۔ حضرت امام نے اپنے اہل بیت کو تلقین صبر فرمائی۔ رضاۓ الہی پر صابر و شاکر رہنے کی بدایت کی اور سب کو سپردخدا کر کے میدان کی طرف رخ کیا۔ اب شہ قاسم ہیں نہ ابو بکر و عمر عثمان و عون و جعفر و عباس جو حضرت امام کو میدان جانے سے روکیں اور اپنی جانوں کو امام پر فدا کریں۔ علی اکبر بھی آرام کی نیزد سو گئے جو حصول شہادت کی تھنماں میں بے چین تھے تھا امام ہیں اور آپ ہی کواعداء کے

سوانح کربلا

{۱۰۷}

حضرت امام کی زبان گوہر فشاں سے یہ کلمات سن کر کوئیوں میں سے بہت لوگ روپڑے۔ دل سب کے جانتے تھے۔ کہ وہ برسِ ظلم و جفا ہیں اور حمایت باطل کے لئے انہوں نے دارین کی رو سیاہی کی ہے۔ اور یہ بھی سب کو یقین تھا کہ امام مظلوم حق پر ہیں۔ امام کے خلاف ایک جبش دشمنان حق کے لئے آخرت کی رسوائی و خواری کا موجب ہے۔ اس لئے بہت سے لوگوں پر اثر ہوا۔ اور ظالمان بد باطن نے بھی ایک لمحہ کے لئے اس سے اثر لیا۔ ان کے بدنوں پر ایک پھریری سی آگئی اور ان کے دلوں میں ایک بجلی سی چمک گئی۔ لیکن شر وغیرہ بد سیرت و پلید طبیعتِ رذیل کچھ متاثر نہ ہوئے بلکہ یہ دیکھ کر کہ لشکر یوں پر حضرت امام کی تقریر کا کچھ اثر معلوم ہوتا ہے کہنے لگے کہ آپ قصہ کوتاہ تیجھے اور ابن زیاد کے پاس چل کر یزید کی بیعت کر لیجھئے تو کوئی آپ سے تعارض نہ کرے گا اور نہ بجز جنگ کے کوئی چارہ نہیں ہے۔ حضرت امام کو انجام معلوم تھا۔ لیکن یہ تقریر اقامتِ جنت کے لئے فرمائی تھی کہ انہیں کوئی عذر باتی نہ رہے۔

سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نورِ نظر، خاتون جنت فاطمہ زہرا کا لخت جگر بیکسی، بھوک پیاس کی حالت میں آل و اصحاب کی مفارقت کا ذمہ دل پر لئے ہوئے گرم ریگستان میں تیس ہزار لشکر کے سامنے تشریف فرمائے۔ تمام جھنیں قطع کر دی گئیں۔ اپنے فضائل اور اپنی بے گناہی سے اعداء کو انہی طرح آگاہ کر دیا اور بار بار بتا دیا کہ میں بقصد جنگ نہیں آیا اور اس وقت تک ارادہ جنک نہیں ہے اب بھی موقع دو تو واپس چلا جاؤں گر بیس ہزار کی تعداد امام کو بے کس و تہاد کیجھ کر جو شہزادی و کھانا چاہتی ہے۔

جب حضرت امام نے اطمینان فرمایا کہ سیاہ دلان بد باطن کے لئے کوئی عذر باتی نہ رہا اور وہ کسی طرح خون ناچ و ظلم بنے نہیں سے بازاں نے والے نہیں تو امام نے فرمایا کہ تم جو ارادہ رکھتے ہو پورا کرو۔ اور جس کو میرے مقابلہ کے لئے بھیجا چاہتے ہو۔ بھیجو، مشہور بہادر اور یگانہ نہر آزمائیں کوخت و قت کے لئے محفوظ رکھا گیا تھا میدان میں بھیجیے گے۔ ایک بے حیا ابن زہرا آپ کے مقابلہ تواریخ کا تھا آتا ہے۔ امام تشنہ کام کو آب تنقیح دکھاتا ہے پیشوائے دین کے سامنے اپنی بہادری کی ڈیگنیں مرتا ہے۔ غردو و قوت میں سرشار ہے۔ کثرت لشکر اور تھائی امام پر ناز اس ہے۔ آتے ہی حضرت امام کی طرف تواریخ پہنچتا ہے۔ ابھی ہاتھ اٹھا ہی

خیمہ سے چلے اور میدان میں پہنچ حق و صداقت کا روشن آفتاب سر زمین شام میں طالع ہوا۔ امید زندگانی و تمنائے زیست کا گرد و غبار اس کے جلوے کو چھپا نہ سکا۔ حب دنیا و آسائش حیات کی رات کے سیاہ پردے آفتاب حق کی تجلیوں سے چاک چاک ہو گئے۔ باطل کی تاریکی اس کی نورانی شاعروں سے کافور ہو گئی۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرزند راہ حق میں گھر لٹا کر کسر بکف موجود ہے۔ ہزار ہاپسہ گراں نہر آزمائشگر گراں سامنے موجود ہے۔ اور اس کی پیشانی مصقا پر شکن بھی نہیں۔ دشمن کی فوجیں پہاڑوں کی طرح گھیرے ہوئے ہیں اور امام کی نظر میں پر کاہ کے برابر بھی ان کا وزن نہیں۔ آپ نے ایک ریز پڑھی ہوئی پ کے ذاتی و نسبی فضائل پر مشتمل تھی۔ اور اس میں شامیوں کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناخوش و ناراضگی اور ظلم کے اجسام سے ڈرایا گیا تھا اس کے بعد آپ نے ایک خطبہ فرمایا اور اس میں حمد و صلوٰۃ کے بعد فرمایا:

”اے قوم خدا سے ڈر جو سب کا مالک ہے جان دینا، جان لینا سب اس کے قدر ت و اختیار میں ہے الگ تم خداوند عالم جل جلالہ پر یقین رکھتے اور میرے جد حضرت سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو تو ڈر کہ قیامت کے دن میزان عدل قائم ہو گی۔ اعمال کا حساب کیا جائے گا میرے والدین محشر میں اپنی آل کے بے گناہ خنوں کا مطالبہ کریں گے۔ حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کی شفاعت گنہگاروں کا مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اور تمام مسلمان جن کی شفاعت کے امیدوار ہیں وہ تم سے میرے اور میرے جان ثاروں کے خون ناحق کا بدلہ چاہیں گے۔ تم میرے اہل و عیال اعزہ و اطفال اصحاب و موالی میں سے ستر سے زیادہ کو شہید کر چکے اور اب میرے قتل کا ارادہ رکھتے ہو۔ خبردار ہو جاؤ کہ عیش دنیا میں پائیداری و قیام نہیں۔ اگر سلطنت کی طبع میں میرے در پی آزار ہو تو مجھے موقع دو کہ میں عرب چھوڑ کر دنیا کے کسی اور حصہ میں چلا جاؤں۔ اگر کہ کچھ منظور نہ ہو اور اپنی حرکات سے بازنہ آؤ تو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مرثی پر صابر و شاکر ہیں۔ الا حکم اللہ و رضينا بقضاء اللہ“

کے تشریف گستان کو سیراب فرمادیا۔ نعشوں کے انبار لگ گئے بڑے بڑے فخر روزگار بہادر کام آگئے۔ لشکر اعداء میں شور برپا ہو گیا کہ جنگ کا یہ انداز رہا تو حیدر کا شیر کوفہ کے زن و اطفال کو یہود و یتیم بنا کر چھوڑے گا۔ اور اس کی تفعیل بے پناہ سے کوئی بہادر جان پچا کرنے لے جاسکے گا۔ موقع مت دو اور چاروں طرف سے گھیر کر یکہماری کی حملہ کرو۔ فرمایگان رو باہ سیرت حضرت امام کے مقابلہ میں عاجز آئے اور یہی صورت اختیار کی اور ماہ چرخ حقانیت پر جو رو جفا کی تازیک گھٹا چھا گئی اور ہزاروں نوجوان دوڑ پڑے اور حضرت امام کو گھیر لیا۔ اور تنکار بر سانی شروع کی اور حضرت امام کی ستائش ہو رہی تھی اور آپ خونخواروں کے انبوہ میں اپنی تفعیل آبدار کے جو ہر دکھار ہے تھے جس طرف گھوڑا بڑھا دیا پرے کے پرے کاٹ ڈالے دشمن ہبیت زدہ ہو گئے اور حیرت میں آگئے کہ امام کے حملہ جانستان سے رہائی کی کوئی صورت نہیں ہزاروں آدمیوں میں گھرے ہوئے اور دشمنوں کا سراسر طرح اڑا رہے ہیں جس طرح پذخراں کے جھوٹکے درختوں سے پتے گراتے ہیں۔ ابن سعد اور ان کے مشیروں کو بہت تشویش ہوئی کہ اکیلے امام کے مقابلہ ہزاروں کی جماعتیں، یچ ہیں کوئیوں کی عزت خاک میں مل گئی۔ تمام نامور ان کو فد کی جماعتیں ایک ججازی جواکے ہاتھ سے جان نہ بچا سکتیں۔ تاریخ عالم میں ہماری نامردی کا یہ واقعہ اعلیٰ کوفہ کو ہمیشہ رسولے عالم کرتا رہے گا۔ کوئی تدبیر کرنا چاہیے۔ جو یہ یہ ہوئی کہ دست بدست جنگ میں ہماری ساری فوج بھی اس شیرحت سے مقابلہ نہیں کر سکتی بجراں کے کوئی صورت نہیں ہے کہ ہر چار طرف سے امام پر تیروں کا ینہ برسایا جائے۔ اور جب خوب رخی ہو چکیں تو نیزوں کے حملوں سے تن ناز نہیں کو مجرور کیا جائے۔ تیر اندازوں کی جماعتیں ہر طرف سے گھر آئیں اور امام شنس کام کو گرداب بلا میں گھیر کر تیر بر سانے شروع کر دیئے۔ گھوڑا اس قدر رخی ہو گیا کہ اس میں کام کرنے کی قوت نہ رہی۔ ناچار حضرت امام کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا۔ ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں اور امام مظلوم کا تن ناز پرور نشانہ بنا ہوا ہے۔ نورانی جسم زخموں سے چکنا چور اور ہوا لہان ہو رہا ہے۔ بے شرم کوئیوں نے سُنگ دلی سے محترم مہمان کے ساتھ پہ سلوک کیا ایک تیر پیشانی اقدس پر لگا یہ پیشانی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بوسہ گا تھی۔ یہ سیما نے نور جیب خدا کے آرزو مندان جمال کا قرار دل ہے بے ابان کوفہ نے اس پیشانی مصقا اور

{۱۰۸}

تھا کہ امام نے ضرب فرمائی سر کٹ کر دور جا پڑا۔ اور غرور و شجاعت خاک میں مل گیا۔ دوسرا بڑھا اور چاہا کہ امام کے مقابلے میں ہمدرندی کا اظہار کر کے سیاہ دلوں کی جماعت میں سرخ روئی حاصل کرے ایک نفرہ مارا اور پکار کر کہنے لگا کہ بہادر ان کوہ شکن شام و عراق میں میری بہادری کا غلطہ ہے۔ اور مصروفوم میں میں شہرہ آفاق ہوں دنیا بھر کے بہادر میرالوہا مانتے ہیں۔ آج تم میرے زور و قوت کو اور را و قیچ کو دیکھو۔

ابن سعد کے لشکری اس ملکبر سرکش کی تعلیموں سے بہت خوش ہوئے اور سب دیکھنے لگے کہ کس طرح امام سے مقابلہ کرے گا۔ لشکر یوں کو یقین تھا کہ حضرت امام پر بھوک پیاس کی تکلیف حد سے گزر چکی ہے۔ صدوں نے ضعیف کر دیا ہے۔ ایسے وقت امام پر غالب آ جانا کچھ مشکل نہیں ہے۔ جب پاہ شام کا گستاخ جفا جو سرکشانہ گھوڑا کو دتا سامنے آیا۔ حضرت امام نے فرمایا:

”تو مجھے جانتا نہیں جو میرے مقابلہ اس دلیری سے آتا ہے ہوش میں ہو۔ اس طرح ایک ایک مقابلہ آیا تو تفعیل خون آشام سے سب کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ حسین کو کمزور و بیکس دیکھ کر حوصلہ بند یوں کا اظہار کر رہے ہو۔ نامرد میری نظر میں تھہاری کوئی حقیقت نہیں“

شاہی جوان یہ سن کر اور طیش میں آیا اور بجائے جواب کے حضرت امام پر تکوار کا دار کیا۔ حضرت امام نے اسکا وار بچا کر کمر پر تکوار ماری۔ معلوم ہوتا تھا کھیڑا تھا کات ڈالا۔ اہل شام کو اب یہ اطمینان تھا کہ حضرت کے سوااب اور تو کوئی باقی ہی نہ رہا۔ کہاں تک نہ تھکیں گے۔ پیاس کی حالت دھوپ کی تپش مضھل کر چکی تھی؛ بہادری کے جو ہر دکھانے کا وقت ہے۔ جہاں تک ہو ایک ایک مقابلہ کیا جائے کوئی تو کامیاب ہو گا اس طرح نئے نئے و مبدم شیر صولت پیل پیک، تفعیل زن حضرت امام کے مقابلہ آتے رہے مگر جو سامنے آیا ایک ہی ہاتھ میں اس کا قصہ تمام فرمایا۔ کسی کے سر پر تکوار ماری تو زین تک کاٹ ڈالی کسی کے ہاتھ مارا تو قلم تراش دیا۔ خود مغفرہ کاٹ ڈالے جو شن و آئینے قطع کر دیئے۔ کسی کو نیزہ پر اٹھایا اور زمین پر فیک دیا کسی کے شینے میں نیزہ مارا اور پار نکال دیا۔

زمین کرہا میں بہادر ان کوفہ کا کھیت بودیا۔ نامور ان صفحہ شکن کے خونوں سے کربلا

اس جبین پر ضیا کوتیر سے گھائل کیا حضرت کو چکر آیا اور گھوزے سے نیچے آئے۔ اب مردان سیاہ باطن نے نیزوں پر رکھ لیا، نورانی پکرخون میں نہایا گیا اور آپ شہید ہو کر زمین پر گر پڑے۔ ان اللہ وانا الیه راجعون۔

ظالمان بدکش نے اسی پر اکتفا نہیں کیا۔ اور حضرت امام کی مصیبتوں کا اسی پر خاتمه نہیں کیا دشمنان ایمان نے سرمبارک کوتن اقدس سے جدا کرنا چاہا اور نظر ابن خرشہ اس ناپاک ارادہ سے آگے بڑھا۔ مگر امام کی بیت سے اس کے ہاتھ کا پنگ گئے اور تواریخ جھوٹ پڑی۔ خونی امین یزید پلیدنے یا شبیل یا ابن یزید نے بڑھ کر سر اقدس کوتن مبارک سے جدا کیا۔

صادق جانباز نے عہدو فاپورا کیا۔ اور دین حق پر قائم رہ کر اپنا کنبہ اپنی جان راہ خدا میں اس اولو العزی سے نذر کی سوکھا گلا کاتا گیا، اور کربلا کی زمین سید الشهداء کے خون سے گلزار بُنی۔ سروتون کو خاک میں ملا کر اپنے جد کریم دے دین کی حقانیت کی عملی شہادت دی۔ اور ریگستان کوفہ کے درق پر صدق و امانت پر جان قربان کرنے کے لئے نقوش ثبت فرمائے۔ اعلیٰ اللہ تعالیٰ مکانہ و اسکنہ بحبوحة و امطر عليه شابیب رحمة و رضوانہ کربلا کے بیابان میں ظلم و جفا کی آندھی چلی مصطفائی چمن کے غنچے و گل باد سوم کی نذر ہو گئے۔ خاتون جنت کا لہلہ تباغ دوپہر میں کاث ڈالا گیا۔ کوئین کے متاع بے دینی و بے جمیتی کے سیالب سے غارت ہو گئے۔ فرزندان آل رسول کے سر سے سردار کا سایہ اٹھا۔ نیچے اس غریب الوطنی میں یتیم ہوئے۔ ڈیباں یوہ ہوئیں۔ مظلوم نیچے اور یکسین یبیاں گرفتار کئے گئے۔

محرم ۱۲ھ کی دسویں تاریخ جمعہ کے روز چھپن سال پانچ ماہ پانچ دن کی عمر میں حضرت امام نے اس دارنا پاک نکار سے رحلت فرمائی۔ اور داعی اجل کو لبیک کی۔ امین زیادہ نہاد نے سرمبارک کو کوفہ کے کوچہ و بازار میں پھر دایا۔ اور اس طرح اپنی بے جمیتی و بے حیائی کا اظہار کیا۔ پھر حضرت سید الشهداء اور ان کے تمام جانباز شہداء کے سروں کو اسیر ان اہل بیت کے ساتھ شرمناپاک کی ہمراہ یزید کے پاس منت بھیجا۔ یزید نے سرمبارک اور اہل بیت کو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ طیبہ بھیجا۔ اور وہاں حضرت امام حسن کے پہلو میں مدفن ہوا۔

اس واقعہ ہائل سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو رنج پہنچا اور قلب مبارک کو جو صدمہ پہنچا، اندازہ اور قیاس سے باہر ہے۔ امام تیہقی اور امام احمد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی۔ ایک روز میں دوپہر کے وقت حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والتسیمات کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوا۔ میں نے دیکھا کہ ستمبل معنبر و گیسوئے معطر بھرے ہوئے اور غبار آسود ہیں۔ دست مبارک میں ایک خون بھرا شیشہ ہے۔ یہ حال دیکھ کر دل بے چین ہو گیا۔ میں نے عرض کیا اے آقا! قربان شوم یہ کیا حال ہے۔ فرمایا جسین اور ان کے رفیقوں کا خون ہے میں اسے آج صح سے اٹھا رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں میں نے اس تاریخ وقت کو یاد رکھا۔ جب خبر آئی تو معلوم ہوا کہ حضرت امام اسی وقت شہید کئے گئے۔ حاکم نے تیہقی میں حضرت امام سلم رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک حدیث روایت کی انہوں نے بھی اسی طرح حضور علیہ الصلوٰۃ والتسیمات کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے سرمبارک وریش اقدس پر گرد و غبار ہے عرض کیا، جان ماکنیہ ان شارق توباد یا رسول اللہ یہ کیا حال ہے۔ فرمایا ابھی امام حسین کے مقتل میں گیا تھا۔ تیہقی ابو نعیم نے بصرہ ازدیہ سے روایت کی کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کئے گئے تو آسمان سے خون بر ساصح کو ہمارے ملنکے گھرے اور تمام برتن خون سے بھرے ہوئے تھے۔ تیہقی ابو نعیم نے زہری سے روایت کی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس روز شہید کئے گئے اس روز بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے تازہ خون پایا جاتا تھا۔

تیہقی نے ام جبان سے روایت کی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن اندر ہیرا ہو گیا اور تین روز کامل اندر ہیرا رہا۔ اور جس شخص نے منه پر زعفران (غازہ) ملا اس کامنہ جل گیا اور بیت المقدس کے پتھروں کے نیچے تازہ خون پایا گیا۔ تیہقی نے جیل بن مرہ سے روایت کیا کہ یزید کے لشکریوں نے لشکر امام میں ایک اونٹ پایا اور امام کی شہادت کے روز اس کو ذبح کیا۔ اور پکایا تو اندر ائم کی طرح کڑا ہو گیا اور اس کو کوئی نہ کھسا ک۔

ابو نعیم نے سفیان سے روایت کی وہ کہتے ہیں کہ محمد کو میری دادی نے خبر دی کہ حضرت امام کی شہادت کے دن میں نے دیکھا رس (کسم) را کھہ گیا اور گھوشت آگ ہو گیا۔

بیہقی نے علی بن شیر سے روایت کی کہ میں نے اپنی دادی سے شاوه کہتی تھیں کہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے زمانے میں جوان لڑکی تھی، کئی روز آسمان رویا، یعنی آسمان سے خون برسا بعض موخرین نے کہا کہ سات روز تک آسمان خون رویا۔ اس کے اثر سے دیواریں اور عمارتیں نگین ہو گئیں اور جو کپڑا اس سے رنگیں ہوا اس کی سرخی پر زے پر زے ہونے تک نہ گئی۔

ابو نعیم نے حبیب بن ثابت سے روایت کی کہ میں نے جنوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پر اس طرح نوح خوانی کرتے سننا:

مسح النبی حبیب

فله بريق في الحدود
اس جبین کو نبی نے چوما تھا

ابواه من عليا قريش

جده خير الجدد
اس کے ماں باپ برترین قریش

ابو نعیم نے حبیب بن ثابت سے روایت کی کہ امام المؤمن حضرت امام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے سوائے آج کے بھی جنوں کو نوحہ کرتے اور روتے نہیں تھا۔ مگر آج سناتوں نے جانا کہ میرا فرزند حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گیا۔ میں نے اپنی لوٹی کو بھیج کر خبر منگائی تو معلوم ہوا کہ حضرت امام شہید ہو گئے جن اس نوحہ کے ساتھ زاری کرتے تھے۔

الایسا عین فابتهلی بعهد

ومن يسكي على الشهداء بعدى
کون روئے گا پھر شہیدوں کو

علی رهط تقدوم المنايا

الى متجر فی ملک عهدي
پاس خالم کے کھجیج کر لائی

موت ان بیکسوں غربیوں کو
ابن عساکر نے منہاں بن عمرہ سے روایت کی وہ کہتے ہیں۔ واللہ میں نے پچشم خود دیکھا کہ جب سر مبارک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ نیزے پر لے جاتے تھے اس وقت میں دمشق میں تھا۔ سر مبارک کے سامنے ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا۔ جب وہ اس

آیت پڑھنچا:

ان اصحاب الکھف والرقیم کانوا من ایاتنا عجبًا
اصحاب کھف و رقیم ہماری شانیوں میں سے تھے۔

اس وقت اللہ تعالیٰ نے سر مبارک کو گویاً دی۔ بربان فصح فرمایا:
اعجب من اصحاب الکھف قتلی و حملی

”اصحاب کھف کے قتل کے واقعے میر اقل اور میرے سر کو لے پھرنا عجیب تھے“
درحقیقت بات یہی ہے کیونکہ اصحاب کھف پر کافروں نے ظلم کیا تھا اور حضرت امام کو ان کی جدی امت نے مہماں بنا کر بایا۔ پھر بے وفائی سے پانی تک بند کر دیا آں اصحاب کو حضرت امام کے سامنے شہید کیا۔ پھر خود حضرت امام کو شہید کیا اہل بیت کو اسیر کیا۔ سر مبارک شہر پھرایا اصحاب کھف سالہاں کی طویل خواب کے بعد یوں۔ یہ ضرور عجیب ہے مگر سر مبارک کائن سے جدا ہونے کے بعد کلام فرمانا اس تھے عجیب تھے۔

ابو نعیم نے بطريق ابن الہیبع ابی حضبل سے روایت کی کہ حضرت امام کی شہادت کے بعد جب بد نصیب کوئی سر مبارک کو لے کر چلے اور پہلی منزل میں ایک پاؤ پر بیٹھ کر شربت خرمہ پینے لگے اس وقت ایک لوہے کا قلم نمودار ہوا اس نے خون سے یہ شعر لکھا
اترجوا امة قلت حسیناً

شفاعة جده یوم الحساب

یہ بھی منقول ہے کہ ایک منزل میں جب اس قابلہ نے قیام کیا وہاں ایک دریخا۔ دری کے راہب نے ان لوگوں کو اسی ہزار دریم دے کر سر مبارک کو ایک شب اپنے پاس رکھا۔ غسل دیا عطر لگایا، ادب و تغذیم کے ساتھ تمام شب زیارت کرتا اور روتا رہا۔ اور رحمت الہی کے جوانوار سر مبارک پر نازل ہو رہے تھے ان کا مشاہدہ کرتا تھا کہ یہی اس کے اسلام کا باعث ہوا۔ اشیاء نے جب دراہم تقسیم کرنے کے لئے تھیلوں کو کھولا تو دیکھا سب میں تھیکریاں بھری ہوئی ہیں اور ان کے ایک طرف لکھا ہے

ولا تحسین اللہ غافلًا عمًاً یعمل الظلمون

خداؤ ظالموں کے کردار سے غافل نہ جانو اور درسری طرف یہ آیت مکتب ہے۔

و سیلعم الدین ظلموا ای منقلب ینقلبیوں

”اور ظلم کرنے والے عنقریب جان لیں گے کہ کس کروٹ بیٹھے ہیں“

غرض زمین و آسمان میں ایک ماتم برپا تھا۔ تمام دنیا رخ و نم میں کرفقارتی۔ شہادت امام کے دن آنفتاب کو گرہن لگا۔ ایسی تاریکی ہوئی کہ دو پھر میں تارے نظر آنے لگا آسمان رویا زمین روئی ہوا میں جنات تے نوحہ خوانی کی۔ راہب تک اس حدادی قیامت نما سے کانپ گئے اور وہ پڑے فرزند رسول جگر گوشۂ بتول سردار قریش امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ابن زید مشیر کے سامنے طشت میں رکھا جائے اور وہ فرعون کی طرن نہ تلبہ پ بیٹھے اہل بیت اپنی آنکھوں سے یہ مظفر دیکھیں، ان کے دلوں کا کیا حال ہوگا۔ پھر سر بارہ اور تمام شہداء کے سروں کو شہر نیزوں پر پھیرا جائے۔ اور وہ یزید پلید کے سامنے لاکرائی طرح رکھے جائیں اور وہ نوش ہوا کون برداشت کر سکتا ہے۔ یزید کی رعایا بھی بگڑ گئی اور ان سے یہندیکھا گیا۔ اس پر اس ناہکار نے اظہار ندامت کیا گری یہندامت اپنی جماعت کو قبضہ میں رکھنے کے لئے تھی دل تا اس ناپاک کا اہل بیت کرام کے عناد سے بھرا ہوا تھا حضرت امام پر ظلم و قسم کے پہاڑ نوٹ پڑے اور آپ نے اور آپ کے اہل بیت نے صبر و رضا کا وہ امتحان دیا جو دنیا کو یہت میں اہل بیتا ہے۔ راہ حق میں وہ مصیبتیں اٹھائیں جن کے تصور سے دل کانپ جاتا ہے یہ کمال شہادت، بنازی ہے اور اس میں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حق و صداقت پر استقامت و انتقال لی بہترین تعلیم ہے۔

واقعات بعد از شہادت

حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود مبارک یزید کی بے قاعد گیوں کے لئے ایک زبردست مختسب تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آپ کے زمانہ مبارک میں اس کو بے مہاری کا موقع میرمنہ آئے گا۔ اور اس کی کچھ روی اور گمراہی پر حضرت امام صبرہ فرمائیں گے۔ اس کو نظر آتا تھا کہ امام جیسے دیندار کا تازیہ تعریف ہر وقت اس کے سر گھوم رہا ہے۔ اسی وجہ سے وہ اور بھی زیادہ امام کی جان کا دشمن تھا اور اسی لئے حضرت امام کی شہادت اس کے لئے باعث مسرت ہوئی۔ حضرت امام کا سایہ المحن تھا یزید کھل کھیا اور انواع و اقسام کے معاصی کی گرم بازاری ہو گئی۔ زنا والوں، حرام کاری، بھائی، بہن کا بیاہ، سود، شراب، دھڑتے سے رانج ہونے نمازوں کی پابندی اٹھ گئی۔ تردوس کر کی انتہا کو پہنچی۔ شیطنت نے یہاں تک زور کیا کہ مسلم ابن عقبہ کو بارہ ہزار یا بیش ہزار کا لشکر گراں لے کر مدینہ طیبہ کی چڑھائی کے لئے بھیجا۔ یہ ۱۲ھ کا واقعہ ہے اس نامہ اد لشکر نے مدینہ طیبہ میں وہ طوفان برپا کیا کہ العظۃ اللہ قتل و غارت اور طرح طرح کے مظالم ہمایگان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ و بارک و سلم پر کئے۔ وہاں کے سائنسیں کے گھر لوٹ لئے۔ سات سو صحابہ کو شہید کیا اور دوسرے عام باشندے ملا کر دوں ہزار سے زیادہ کو شہید کیا لڑکوں کو قید کر لیا۔ ایسی اسکی بد تیزیاں کیں جن کا ذکر کرنا ناگوار ہے۔ مسجد بنوی شریف کے ستوں میں گھوڑے باندھے تین دن تک لوگ مسجد شریف میں نماز سے مشرف نہ ہو سکے صرف حضرت سعید ابن میتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنون بن کروہاں حاضر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حظله بن عسل نے فرمایا کہ یزید یوں کے ناشائستہ حرکات اس حد پر پہنچے ہیں کہ ہمیں اندر یہ شہر ہونے لگا کہ ان کی بدکاریوں کی وجہ سے کہیں آسمان سے پھر نہ بریں پھر یہ لشکر شرات اڑ کمک طرف روانہ ہوا۔ راستے میں امیر لشکر مر گیا۔ اور دوسر اٹھیں اس کا قائم مقام کیا گیا۔ نکہ معظمه پہنچ کر ان بے دینوں نے پہنچنے سے سنگ باری کی (مُنْقِتَ پُهْرِ چِنْكَنَے کا آلہ ہوتا ہے جس سے پھر پہنچ کر باتا

ہے اس کی زد بڑی زبردست اور درمکاری مار ہوتی ہے) اس سنگ باری سے حرم شریف کا صحن مبارک پتھروں سے بھر گیا اور مسجد حرام کے ستون ٹوٹ پڑے اور کعبہ مقدسہ کے خلاف شریف اور چھت کو ان بے دینوں نے جلا دیا اسی چھت میں اسی دنبہ کے سینگ بھی تبرک کے طور پر محفوظ تھے۔ جو سیدنا حضرت امام علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے فدیہ میں قربانی کیا گیا تھا وہ بھی جل گئے۔ کعبہ مقدسہ کئی روز تک بے لباس رہا اور وہاں کے باشندے ختن مصیبت میں بٹلار ہے۔

آخرا کریزید پلید کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک فرمایا اور وہ بد نصیب تین برس سات میں تھت حکومت پر شیطنت کر کے ۵ ربیع الاول ۲۳ھ کو جس روز اس پلید کے حکم سے کعبہ معظملہ کی ہے حرمتی ہوئی تھی، شہر حصہ ملک شام میں اتنا لیس برس کی عمر میں ہلاک ہوا۔ ہنوز قتل جاری تھا کہ یزید ناپاک کی ہلاکت کی خبر پہنچی حضرت ابن زیر نے ندادی کہ اہل شام تمہارا طاغوت ہلاک ہو گیا۔ یہ سن کر وہ لوگ ذلیل و خوار ہوئے اور لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور وہ گردہ تا حق پڑھہ خاصہ و خاسہ ہوا اہل مکہ کو ان کے شر سے نجات ملی۔ اہل حجاز، یمن و عراق و خراسان نے حضرت عبد اللہ بن زیر رضی اللہ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کی اور اہل مصر و شام نے معاویہ بن یزید کے ہاتھ پر ربیع الاول ۲۴ھ میں یہ معاویہ اگرچہ یزید پلید کی اولاد سے تھا مگر آدمی نیک اور صالح تھا۔ باپ کے ناپاک افعال کو بر جانتا تھا۔ غنان حکومت ہاتھ میں لیتے وقت سے تادم مرگ پیارہی رہا اور کسی کام کی طرف نظر نہ ڈالی اور چالیس یا دو تین ماہ کی حکومت کے بعد اکیس سال کی عمر میں مر گیا۔ آخر وقت میں اس سے کہا گیا کہ کسی کو خلیفہ کرے اس کا جواب اس نے یہ دیا کہ میں نے خلافت میں کوئی حلاوت نہیں پائی تو میں اس تنخی میں کسی دوسرے کو کیوں ہتلا کروں۔

معاویہ بن یزید کے انتقال کے بعد اہل مصر و شام نے بھی حضرت عبد اللہ بن زیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی پھر مردان بن حکم نے خروج کیا اور اس کو شام و مصر پر قبضہ ہوا۔ ۲۵ھ میں اس کا انتقال ہوا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا عبد الملک اس کا قائم مقام ہوا۔ عبد الملک کے عہد میں مختار بن عبید ثقیفی نے عمر بن سعد کو بیانیا۔ ابن سعد کا بیٹا حفص حاضر ہوا۔ مختار نے دریافت کیا تیرا باپ کہا ہے؟ کہنے لگا کہ وہ خلوت نشین ہو گیا ہے گھر سے

باہر نہیں نکلتا۔ اس پر مختار نے کہا بودھ رے کی حکومت کہا ہے جس کی چاہت میں فرزند رسول سے بے وفا کی تھی اب کیوں اس سے دست بردار ہو کر گھر میں بیٹھا ہے۔ حضرت امام کے شہادت کے روز کیوں خانہ نشین نہ ہوا۔ اس کے بعد مختار نے ابن سعد اور اس کے بیٹے اور شرمناپاک کی گردن مارنے کا حکم دیا اور ان سب کے سر کٹا کر حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برادر حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ ڈیئے اور شرکی لاش کو گھوڑوں کے سووں سے رومندا دیا جس سے اس کے سینے اور پسلی کی بذریا چکنا چور ہو گئیں۔

شر حضرت امام کے قاتلوں میں سے ہے۔ اور ابن سعد اس لشکر کا قاتلہ سالار و کماندار تھا۔ جس نے حضرت امام پر مظالم کے طوفان توڑے۔ آج ان ظالمان تم شعار و مغور ان ناپاکار کے سر تن سے جدا کر کے دشت بدشت پھرائے جا رہے ہیں۔ اور دنیا میں کوئی ان کی بے کسی پر افسوس کرنے والا نہیں۔ ہر شخص ملامت کرتا ہے اور نظر حقارت سے دیکھتا ہے اور ان کی اس ذلت و رسوانی کی موت پر خوش ہوتا ہے مسلمانوں نے مختار کے اس کارنامہ پر اظہار فرح کیا اور اس کو دشمنان امام سے بدلمہ لینے پر مبارک باد دی۔

اے ابن سدرے کی حکومت تو کیا ملی۔ ظلم و جنا کی جلد ہی تجھ کو سزا ملی اے شر ناپاکار شہیدوں کے خون کی کیسی سزا تجھے ابھی اے نا سزا ملی اے تشکان خون جوانان الہدیت دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی کتوں کی طرح لاش تھمارے بڑا کئے گھورے پہ بھی نہ گور کو تمہاری جا ملی رسوائے خلق ہو گئے بر باد ہو گئے مردود اتم کو ذلت ہر دوسرا ملی تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوسٹان تم خود ابڑ گئے تمہیں یہ بدوعا ملی دنیا پرستو ادیں سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی نہ عیش و طرب کی ہوا ملی آخر دکھارنگ شہیدوں کے خون نے سرکش گئے اماں نہ تمہیں اک ذرا ملی پائی ہے کیا نیم انہوں نے ابھی سزا دیکھیں گے وہ جیم میں جس دن سزا ملی

اس کے بعد مختار ایک حکم عام دیا کہ کربلا میں جو شخص عمر بن سعد کا شریک تھا وہ جہاں پایا جائے مارڈا الاجائے۔ یہ حکم لشکر کوفہ کے جفا شعار سورا باصرہ بھاگنا شروع ہوئے۔

مختار کے شکر نے ان کا تعاقب کیا جس کو جہاں پایا ختم کر دیا اُسیں جلا ڈالیں۔ گھر لوٹ لئے۔ خولی بن یزید و خبیث ہے جس نے حضرت امام عالی مقام کا سر مبارک تن اقدس سے جدا کیا تھا۔ یہ رویا ہے بھی گرفتار کر کے مختار کے پاس لا یا گیا مختار نے پہلے اس کے چاروں ہاتھ پر کٹوائے پھر سوی چڑھایا۔ آخر آگ میں جھونک دیا۔ اس طرح لشکر ابن سعد کے تمام اشراک طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کیا۔ چھ ہزار کوئی جو حضرت امام کے قتل میں شریک تھے ان کو مختار نے طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کر دیا۔

ابن زیاد کی ہلاکت

عبداللہ ابن زیاد یزید کی طرف سے کوفہ کا ولی (گورنر) کیا گیا تھا۔ اسی بد نہاد کے حکم سے حضرت امام اور آپ کے اہل بیت کو یہ تمام ایذا میں پہنچائی گئیں۔ یہی ابن زیاد موصل میں تیس ہزار فوج کے ساتھ اتر۔ مختار نے ابراہیم ماںک اشتر کو اس کے مقابلے کے لئے ایک فوج کو دے کر بھیجا۔ موصل سے پندرہ کوں کے فاصلہ پر دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا اور صبح سے شام تک خوب جنگ رہی۔ جب دن ختم ہونے والا تھا اور آفتاب قریب غروب تھا اس وقت ابراہیم کی فوج غالب آئی۔ ابن زیاد کو لکھت ہوئی اور اس کے ہمراہ بھی بھاگ گئے۔ ابراہیم نے حکم دیا کہ فوج مقابلہ میں سے جو اتحاد آئے اس کو زندہ نہ چھوڑا جائے۔ چنانچہ بہت سے ہلاک کئے گئے۔ اسی ہنگامہ میں ابن زیاد بھی فرات کے کنارے محروم کی دسویں تاریخ ۷۲ھ میں مارا گیا اور اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے پاس بھیجا گیا۔ ابراہیم نے مختار کے پاس کوفہ میں بھجوادیا۔ مختار نے دارالامارت کو فد کو راستہ کیا اور اہل کوفہ کو جمع کر کے ابن زیاد کا سرناپاک اسی جگہ رکھوایا جس جگہ اس مغرب و بندہ دنیا نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک رکھا تھا۔ مختار نے اہل کوفہ کو خطاب کر کے کہا اے اہل کوفہ دیکھ لو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون نا حق نے ابن زیاد کو نہ چھوڑ۔ آج اس نامرا د کا سر اس ذلت و رسائی کے ساتھ یہاں رکھا ہوا ہے چھ سال ہوئے ہیں وہی تاریخ وہی جگہ ہے خداوند عالم نے اس مغرب و فرعون خصال کو ایسی ذلت و رسائی کے ساتھ ہلاک کیا اسی کوفہ اور اسی دارالامارت میں اس بے دین کے قتل و ہلاک پر چشم منایا جا رہا ہے۔ ترمذی شریف کی صحیح روایت میں ہے کہ جس وقت ابن زیاد اور اس کے سرداروں کے

سوانح کربلا

{۱۱۹}

برختار کے سامنے لا کر رکھے گئے تو ایک بڑا سانپ نمودار ہوا اور اس کی بیت سے لوگ ڈر گئے۔ وہ تمام سروں پر پھرا پھر جب عبداللہ ابن زیاد کے سر کے پاس پہنچا اس کے نہضوں میں گھس گیا اور تھوڑی دیر ہٹھر کر اس کے منہ سے نکلا۔ اس طرح تین بار سانپ اس کے سر کے اندر داخل ہوا اور غائب ہو گیا۔

ابن زیاد ابن سعد، شمر، قیس ابن اشعث کندی، خولی ابن یزید نستان ابن انس نجعی، عبداللہ ابن قیس یزید بن ماںک اور باقی تمام اشقياء جو حضرت امام کے قتل میں شریک تھے اور ساعی تھے طرح طرح کی عقوباتوں سے قتل کئے گئے اور ان کی لاشیں گھوڑوں کی تاپوں سے پامال کرائی گئیں۔

حدیث شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ خون حضرت امام کے بد لے ستر ہزار شقی مارے جائیں گے وہ پورا ہوا دنیا پر ستاران سیاہ باطن اور مغربوں ان تاریک دروں لیا امید یہیں باندھ رہے تھے اور حضرت امام علی جده و علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شہادت سے ان دشمنان حق کو کیسی کچھ تو قعات تھیں لشکر یوں کو گراں قدر انعاموں کے وعدے دیئے گئے۔ سرداروں کو عہدے اور حکومت کا لالجھ دیا گیا تھا۔ یزید اور ابن زیاد وغیرہ کے دماغوں میں جہانگیر سلطنت کے نقشے کھپے ہوئے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ فقط امام ہی کا وجد وہاڑے لئے عیش دنیا سے مانع ہے یہ نہ ہوں تو تمام کردہ زمین پر یزید یوں کی سلطنت ہو جائے۔ اور ہزاروں برس کے لئے ان کی حکومت کا جھنڈا اگڑ جائے مگر علم کے انجام اور قبہ الہی کی جاہ کن بجلیوں اور در در سید گان اہل بیت کی جہاں برہنم کن آہوں کی تاثیرات سے بے خبر تھے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ خون شہداء رنگ لائے گا اور سلطنت کے پرزے ال جائیں گے۔ ایک ایک شخص جو قتل امام میں شریک ہوا ہے طرح طرح کے عذابوں سے ہلاک ہو گا وہی فرات کا کنارہ ہو گا وہی عاشورہ کا دن وہی ظالموں کی قوم ہو گی اور مختار کے گھوڑے انہیں رومند تے ہوں گے۔ ان کی جماعتوں کی کثرت ان کے کام مدد آئے گی۔ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے۔ گھر لوٹے جائیں گے۔ سولیاں دی جائیں گی لاشیں سڑیں گی دنیا میں ہر شخص تف تف کرے گا۔ اس ہلاکت پر خوشی منائے جائے گی۔ معزک جنگ میں اگر چہ ان کی تعداد ہزاروں کی ہو گی مگر وہ دل چھوڑ کر بیچھوڑوں کی طرح بھاگیں گے اور چھوڑوں اور کتوں کی طرح انہیں جان بچانی مشکل ہو گی جہاں پائے جائیں گے۔ مار دیئے جائیں گے۔ دنیا میں

قیامت میں ان ہی نعمت و ملامت کی جائے گی۔

حضرت امام کی شہادت جمایت حق کے لئے ہے اس راہ کی تکلیفیں عزت ہیں۔ اور پھر وہ بھی اس شان کے ساتھ کہ اس خاندان عالی کا پچھپے شیر بن کرمیدان میں آیا مقابل سے اس کی نظر نہ چھپکی دم آختر کہ مبارز طلب کرتا رہا اور جب نامردوں کے ہجوم نے اسکو چاروں طرف سے گھیر لیا تب بھی اس کے پائے ثبات استقلال کو بغش نہ ہوئی اس نے میدان سے باگ نہ موڑی نہ حق و صداقت کا دامن ہاتھ سے چھوڑا نہ اپنے دعوے سے دست برداری کی مردانہ جانبازی کا نام دنیا میں زندہ کر دیا۔ حق و صداقت کا ناقابل فراموش درس دیا۔ اور ثابت کر دیا کہ فیوض نبوت کے پرتو سے حقانیت کی تجلیاں ان باطنوں کے رگ و پے میں ایسی جاگزیں ہو گئی ہیں کہ تیر و توار اور تیر و سنان کی ہزار گہرے گہرے زخم بھی ان کو گزندینیں پہنچاسکتے۔ آخرت کی زندگی کا دلکش منظر ان کی چشم حق بین کے سامنے اس طرح روکش ہے کہ آسائش حیات کو وہ بالتفاقی کی ٹھوکروں سے ٹھکر دیتے ہیں۔

مجاج ابن یوسف کے وقت میں جب دوبارہ حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ اسیر کئے گئے اور لوہے کی بھاری قید و بند کا پار گراں ان کے تن نازمین پر ڈالا گیا اور پہرہ دار معین کر دیئے گئے زہری اس حالت کو دیکھ کر دپڑے اور کہا کہ مجھے تمنا تھی کہ میں آپ کی جگہ ہوتا کہ آپ پر یہ بار مصائب دل کو گوار انہیں ہے۔

اس پر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہ مجھے یہ گمان ہے کہ اس قید و بندش سے مجھے کرب و بے چیزی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو اس میں سے کچھ بھی نہ رہے مگر اس میں اجر ہے اور تذکرہ ہے اور عذاب الہی کی یاد ہے۔ یہ فرمائ کر بیڑیوں میں سے پاؤں اور ہاتھ کرڑیوں میں سے ہاتھ نکال دیئے۔

یہ اختیارات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرامۃ انہیں عطا فرمائے گئے اور وہ صبر و رضا ہے کہ اپنے وجود اور آسائش وجود گھر بار مال و متناء سب سے رضاۓ الہی کے لئے ہاتھ اٹھایتے ہیں اور اس میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ظاہری و باطنی برکات سے مسلمانوں کو مکمل اور فیض یاب فرمائے اور ان کی اخلاقی مندانہ قربانیوں کی برکت سے اسلام کو ہمیشہ مظفر و منصور رکھے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ و عترتہ اجمعین۔